

مَنْ يَرِ الْاَللّٰهَ بِخَيْرٍ اَيْفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ (الحديث)

# فقہ حنفی کے اصول و ضوابط

منتخب از موعظ و ملفوظات  
حاجیہ الامت حضرت آق سید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

مرتب

حضرت مولانا محمد زکریا مظاہری ندوی  
خادم الافقاء والتدریس جامعہ عربیہ ہنوا بانڈہ

زمزم پبلشرز

مَنْ يُرِيَ اللَّهَ بِخَيْرٍ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (الحديث)

# فقہ حنفی ہائیکے اصول و ضوابط

منتخب از موعاظ و ملفوظات  
ہاجیم الامت حضرت آقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

مہرتب

حضرت مولانا محمد زکریا مظاہری ندوی  
خادم الافاء والتدریس جامعہ عربیہ ہنوا بانڈہ

نظر ثانی

مفتی احسان اللہ شایق  
جامعہ الرشیدیہ احسن آباد - کراچی

مزمع پبلشرز

نزد مقدس مسجد اردو بازار کراچی

فون ۷۷۵۶۷۳

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب کا نام	: فقہ حنفی کے اصول و ضوابط
تاریخ اشاعت	: جون ۲۰۰۳ء
باہتمام	: احباب زم زم پبلشرز
کمپوزنگ	: دارالکتابت
سرورق	: لومبر گراؤٹ
ناشر	: زم زم پبلشرز نزد مقدس مسجد اردو بازار کراچی۔

فون نمبر: 7725673 - 7760374 فیکس: 7725673

ای میل: zamzam@set.net.pk  
zamzam01@cyber.net.pk

دیگر ملنے کے پتے : دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی

طبعی کتاب گھر اردو بازار، کراچی

قدیمی کتب خانہ بالقائل آرام باغ، کراچی

صدیقی ڈسٹ ایسیلریج، کراچی، فون: 7224292

مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور

## حروفِ چند

از احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو دینی بصیرت عطا فرمائی تھی وہ بہت ہی کم بندگانِ خدا کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک ہزار کے قریب ان کی تصنیفات ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ایک ملکہ عطا فرمایا، آپ کا ہر وعظ، نصائحِ سبق آموز واقعات، معاشرہ میں پھیلے ہوئے منکرات و بدعات پر، اور مسائل شرعیہ سے بروقت سامعین کو آگاہی فرماتے اس کے تحت بہت سے جزئیات فقہیہ، بہت سے مسائل کی غلط اور حکمتیں غرضیکہ ہر طبقہ کے مسلمانوں کو ان کے طرف کے مطابق سیراب فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے مواعظ تمام تر محفوظ ہو کر کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ ان بکھرے ہوئے موتیوں سے فائدہ حاصل کرنا اور ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ان جواہر پاروں کو چننا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لئے بعد میں حضرت رحمہ اللہ کے بلا واسطہ یا بابا بواسطہ متوسلین حضرت رحمہ اللہ کی کتابوں کو امت کے لئے آسان بنانے کی محنت شروع کی ایک ایک موضوع کی باتیں جمع کر کے الگ کتابی شکل میں شائع کی گئیں یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے اور انشاء اللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ زیر نظر کتاب ”فقہ حنفی کے اصول و ضوابط“ حضرت رحمہ اللہ کے مواعظ و ملفوظات سے چنا ہوا جواہر پاروں کا ایک مجموعہ ہے، جس میں فقہ حنفی کے ایسے اصول و ضوابط ہیں جو عام طور پر درسی پڑھائی جانے والی اصول فقہ کی کتابوں میں موجود نہیں۔ البتہ فقہ حنفی کے قواعد کی بڑی کتابوں میں موجود ہیں،

لیکن ان عربی کتابوں سے استفادہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔

یہ کتاب حضرت مولانا محمد زید مظاہری زید مجدہم کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ اصل کتاب ہندوستان میں چھپی ہے، اب حال میں ہمارے محترم دوست مولانا رفیق میمن صاحب نے اس کتاب کو پہلی مرتبہ کراچی سے چھاپنے کا ارادہ کیا، اور نظر ثانی کے لئے انہوں نے میرا انتخاب کیا یہ ان کا حسن ظن ہے ورنہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تاہم میں نے اپنی علمی بساط کے مطابق اس پر نظر ثانی کی اور کتاب کو بہت ہی عمدہ پایا۔ اس میں بعض مواضع میں قارئین کی سہولت کے پیش نظر فارسی عبارات کا اردو ترجمہ کیا گیا، اسی طرح بعض احادیث کا بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور بعض مشکل الفاظ کی بین القوسین آسان الفاظ میں تشریح کر دی گئی۔ اب انشاء اللہ اس کتاب سے استفادہ پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو امت مسلمہ کے لئے نافع بنائے، حضرت رحمہ اللہ اور ہم جملہ متوسلین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین

## فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
		۳	حروف چند
۳۱	کرتاج صحیح نہیں	۱۷	اصول موتی
۳۲	اصول فقہ کی حیثیت	۱۹	منعرجو ہر
	مجتہدین (و متقدمین) اور متاخرین	۲۰	چشمہ فیض
	کے اصول کا فرق	۲۱	تعارف و تاثر
۳۲	مجتہدین کے بیان کردہ مسائل میں اگر	۲۳	رائے عالی
	کچھ شبہ ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں	۲۵	پیش لفظ از مرتب
۳۲	فقہاء کے بیان کردہ جزئیات کا حکم	۲۷	<b>الباب الاول</b>
۳۳	فقہاء اور محدثین کا فرق	۲۷	فقہ کے کہتے ہیں
۳۳	فقہاء اور محققین کی شان اور ان کی پہچان	۲۷	فقہ کی تعریف
۳۳	ہماری اور فقہاء کی مثال	۲۸	فقہ فی الدین کی حقیقت
۳۵	<b>الباب الثانی</b>	۲۸	فقہ تمام فنون میں سب سے زیادہ مشکل
۳۵	دلائل شرعیہ کا بیان		اور بہت نازک ہے
۳۵	دلائل شرعی چار ہیں	۲۹	کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے
۳۵	فصل نمبر ۱	۳۰	فقہاء کا مقام اور ان کی مقبولیت
۳۵	اجماع	۳۱	اصول فقہ کے ذریعہ کسی مجتہد پر اعتراض
۳۵	اجماع کا ثبوت		
۳۵	اجماع کی حقیقت		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۳	فصل نمبر ۲	۳۷	ظنی اجماع
۳۳	علت و حکمت کا بیان	۳۷	فصل نمبر ۲
۳۳	اجتہاد کے ذریعے حکم کی علت کو سمجھ کر اس کو مستعدی کرنا جائز ہے	۳۷	قیاس کا بیان
۳۳	علت نکالنے کا کس کو اور کن مواقع میں حق ہے	۳۷	قیاس کی تعریف
۳۳	ہر شخص کو علت نکالنے کی اجازت نہیں	۳۷	قیاس کی مثال
۳۵	ہر ایک کو حکم کی علت دریافت کرنا صحیح نہیں	۳۷	قیاس کرنے یا نہ کرنے کا حکم
۳۵	احکام شرعیہ کی علتیں عوام کے سامنے بیان بھی نہ کرنا چاہئیں	۳۷	کیا ملائکہ اور مجذومین بھی قیاس کرتے ہیں اور انکا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے؟
۳۶	اسرار و حکم کا فقہی حکم	۳۸	فصل نمبر ۳
۳۶	علت اور حکمت کا فرق	۳۸	علم اعتبار کا بیان
۳۷	حکمت پر احکام کے مبنی نہ ہونے کی دلیل	۳۸	علم اعتبار کی حقیقت
۳۷	منصوص حکمت بھی مد حکم نہیں	۳۹	صوری قیاس اور اس کا حکم
۳۸	علت و حکمت کا واضح فرق مع مثال اور احکام شرعیہ میں بیان کردہ علل کی حیثیت	۳۹	صوری قیاس کے اقسام تقاول، اعتبار تعبیر
۳۸	کتاب اللہ میں بیان کردہ علل کی حیثیت	۳۹	علم اعتبار علم تعبیر سے اشرف ہے
۳۸	اسرار و حکم کی تحقیق کرنے کی بابت قول فیصل	۴۰	قیاس فقہی اور قیاس تصرنی کا فرق اور دونوں کا حکم
۵۰	فصل نمبر ۵	۴۱	علم اعتبار کا قرآن سے ثبوت
۵۰	ظن کا بیان	۴۱	علم اعتبار کی مثال
		۴۲	علم اعتبار یا قیاس تصرنی کی دلیل

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	کشفیہ کا حکم	۵۰	ظن کے مختلف معانی
۵۷	فراست کا حکم	۵۰	ظن کی اصطلاحی تعریف اور اسکی حجیت
۵۷	علم قیاذہ کی حقیقت اور اس کا حکم	۵۱	ظن کے معتبر ہونے کا محل و موقع
۵۸	الہام اور کشف کا حکم	۵۱	احکام کا دار و مدار ظن غالب پر ہوتا ہے
۵۸	حدیث ضعیف کا حکم		نہ کہ امر موبہوم پر
۵۸	ادراک کا حکم	۵۱	ظنی ہونے کا مقتضی
۵۸	شرائع من قبلنا کا حکم	۵۲	حسن ظن کا آخری مرحلہ
۵۹	شرائع من قبلنا کی طرح حدیث تقریری بھی حجت ہے	۵۲	ظن کے محمود و مذموم اور مقبول و غیر مقبول ہونے کا معیار
	<b>الباب الثالث</b>	۵۳	ظن کے اقسام و احکام
۶۰	<b>فصل نمبر ۱</b>	۵۳	معاملات میں سوہ ظن کا حکم
۶۰	اقسام احکام	۵۳	قرآن کے معتبر ہونے کی دلیل
۶۰	بااعتبار شور کے احکام کی تین قسمیں	۵۳	<b>فصل نمبر ۶</b>
۶۰	احکام ذوقیہ اور اجتہادیہ کا فرق اور دونوں کا حکم	۵۳	عملیات، جادو، جنات، نجومی وغیرہ سے حاصل شدہ علم کا شرعی درجہ اور اس کا حکم
۶۱	احکام اجتہادیہ و ذوقیہ کا دار و مدار		تصرف، سحر، عملیات و تعویذات کا حکم
۶۱	احکام کی دوسری تقسیم	۵۵	بے خودی یا خواب کا حکم
۶۱	ترتیب احکام کے اعتبار سے احکام شرعیہ کی دو قسمیں اصلی و عارضی	۵۶	کشف کا حکم
۶۲	قاعدہ مذکورہ کی دلیل	۵۶	کشف قلوب کی دو قسمیں اور مسائل
۶۶	مسائل کی دو قسمیں قطعیہ و ظنیہ	۵۷	



صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۳	ناصح ہونے پر نہیں	۶۳	احکام قطعہ و ظلیہ و اجتہاد یہ کی تفصیل اور
۶۹	جائز کے دو درجہ		ان کے احکام
۷۰	اصل امر میں وجوب ہے	۶۳	دلائل سمعیہ و نقلیہ کی ضرورت کہاں واقع ہوتی ہے
۷۰	فی زمانہ اباحت اصل ہے یا حرمت	۶۳	عقائد قطعہ و ظلیہ کے لئے کیسے دلائل کی ضرورت ہے
۷۱	حضرت کی رائے	۶۳	وجوب کی دو قسمیں واجب بالذات اور واجب بالغیر
۷۱	عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ یا رخصت پر	۶۳	دلیل اور مثال
۷۱	مستحب رخص کی دو قسمیں اور ان کا حکم	۶۵	تمتہ
۷۲	فصل ۲	۶۵	تفریحات
۷۲	احکام کے مکلف بنانے کا بیان	۶۶	واجب کا مقدمہ واجب اور حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے
۷۵	عقل کا ہر درجہ تکلیف کیلئے کافی نہیں	۶۷	حکم واقعات اکثر یہ پر عائد ہوتا ہے شدوذ کا اعتبار نہیں ہے
۷۵	مکلف ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں	۶۷	احکام میں اعتبار اکثر کا ہوتا ہے ﴿للا اکثر حکم الكل﴾
۷۳	تکلیف کا مدار عقل پر ہے نہ کہ حواس پر	۶۸	احکام معنون سے متعلق ہوتے ہیں نہ کہ عنوان سے
۷۳	کفار کے فروع میں مکلف ہونے نہ ہونے کی تحقیق	۶۹	احکام کا دار و مدار آثار پر ہوتا ہے نہ کہ محض اسباب پر
۷۳	زرک فروع پر کفار کو عذاب ہو گا یا نہیں	۶۹	کسی امر کا جائز یا ناجائز ہونا محض اس کے
۷۵	کفار فروع میں نواہی کے مکلف ہیں یا نہیں		
۷۶	فصل نمبر ۳		
۷۶	توکل و اسباب کے اقسام و احکام		
۷۶	توکل کی دو قسمیں		
۷۶	اسباب کی دو قسمیں		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۰	طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانا جائز ہے	۷۶	اور اسباب یقینیہ
۹۰	عدل نقل حجت ہے یا نہیں	۷۷	اور اسباب ظنیہ
۹۱	جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ	۷۷	تدبیر کے اقسام و احکام
	ثواب ہوگا اس قاعدہ کی تشریح	۷۹	<b>الباب الرابع</b>
۹۲	کبھی مسبب سے سبب کا وجود ہوتا ہے	۷۹	مترقب قواعد
۹۲	نفع لازم مقدم ہے یا نفع متعدي	۷۹	الاہم فالاہم کے قاعدہ کی تشریح
۹۳	نفع لازم مقصود بالذات اور نفع متعدي	۸۰	حقوق العبد حقوق اللہ پر مقدم ہیں
	مقصود بالعرض ہے	۸۰	قاعدہ کی تشریح
۹۴	عملی فساد کیلئے قوی اصلاح کافی نہیں بلکہ	۸۲	العمرۃ العموم الالفاظ کے قاعدہ کی تشریح
۹۴	عملی اصلاح و تبلیغ بھی ضروری ہے	۸۳	قاعدہ لاعمرۃ لخصوص المورود
	اعانت علی المعصیۃ کے حدود	۸۴	ایک اطاعت میں دوسری اطاعت کا قصد
۹۴	معصیت کا ذریعہ اور سبب بھی معصیت ہے		کرنے کی تحقیق اور حدیث لاجہز و انا
۹۵	ابھوا ماہمہم اللہ اللہ نے جن امور کو ہم		فی الصلوٰۃ کی تشریح
	رکھا ہے ان کو ہم رکھو	۸۶	طاعت مقصودہ کو دنیوی اغراض کا
۹۵	دوقرأتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں اس		ذریعہ بنانا
	قاعدہ کی تشریح	۸۷	رفع مضرت و جلب منفعت کا قاعدہ
۹۶	قاعدہ الشیء اذا ثبتت ثبتت بلوازمہ	۸۷	اہون الضررین کو اختیار کرنے کا قاعدہ
۹۷	حسنات الامراء سیئات المقرین کا قاعدہ	۸۸	عدم النفع اور مضرت کا فرق
۹۹	جو فعل شارح سے غلبہ حال کی وجہ سے	۸۸	اخف المفسدین کو اختیار کرنے کا قاعدہ
	صادر ہووے مشرور نہیں انبیاء و کالمیلین پر	۸۹	حلال و حرام کا مجموعہ حرام ہی ہوتا ہے
	بھی حال طاری ہوتا ہے	۹۰	معصیت کے ذریعہ معصیت کو دفع کرنا
۱۰۰	ایک اہم قاعدہ فقہیہ		جائز نہیں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	کا ترک واجب ہے	۱۰۲	ایک اور نظیر
۱۱۰	جب مصالح و مفاسد میں تقاض ہو	۱۰۳	مزید توضیح اور دلائل
۱۱۱	قاعدہ عامہ کی دلیل اور مفسدہ کی دو قسمیں	۱۰۴	ایک اہم اصول ہے کہ یہی کیسے امور میں وار ہوتی ہے
۱۱۲	توضیح مثال مع دلیل	۱۰۴	ایک اہم قاعدہ اور مداخلت فی الدین کا مطلب
۱۱۲	جو مباح یا مستحب ذریعہ بنتا ہو کسی معصیت کا وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے	۱۰۵	ایک قاعدہ
۱۱۳	مباح کے حرام ہونے کی وجہ		
۱۱۳	زمانہ اور حیثیات کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں		
۱۱۳	مثال	۱۰۵	متفرق اصولی باتیں
۱۱۳	ضروری تنبیہ	۱۰۷	<b>الباب الخامس</b>
۱۱۵	کسی شخص کے جائز عمل سے اگر دوسروں کے غلط نظریے کی تائید اور ان کیلئے سند بنتی ہو تو اس شخص کے حق میں بھی وہ عمل ناجائز ہوتا ہے	۱۰۷	اباحت و مندب مصالح و مفاسد کے احکام
	قاعدہ	۱۰۸	اعمال کی تین قسمیں
۱۱۶	پسندیدہ اعمال کو بدنامی اور ملامت یا لوگوں کے برا سمجھنے کی وجہ سے کرنا نہ کرنے کا ضابطہ	۱۰۷	مباح کا حکم اور اس کی صورتیں
		۱۰۸	بناءء احکام کے اعتبار سے مباح کی دو قسمیں
		۱۰۸	جس مباح یا مندوب سے فساد عوام کا اندیشہ ہو اس کا ترک واجب ہوتا ہے
۲۳	<b>الباب السادس</b>	۱۰۹	قاعدہ
۲۳	سنت کی تعریف	۱۰۹	قاعدہ مذکورہ کی دلیل
۲۳	اقسام سنت	۱۰۹	امر مباح و مندوب غیر مشروع کے مل جانے کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے
۲۳	سنن زوائد و مستحب کا حکم	۱۱۰	امر مندوب سے اگر فساد عقیدہ ہو تو اس

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۹	التزام مالا یلزم کے ممنوع ہونے کی دلیل	۱۲۴	احیاء سنت کی تعریف
۳۹	التزام اور دوام کافرق	۱۲۵	سنت و بدعت کی بہترین تشریح
۳۹	دوام کی تعریف	۱۲۷	سنت و بدعت کافرق اور اسکی پہچان کا طریقہ
۱۲۰	<b>فصل نمبر ۳</b>	۱۲۸	احداث للدين واحداث فی الدین
۱۲۰	رسم کی تعریف، رسم کا بیان	۱۲۹	غیر مشروع اور مندوب کا اس کی حد سے
۱۲۰	امور دینیہ میں رسم یا التزام کا حکم		زائد اہتمام کرنا تخصیص تعیین کرنا بدعت
۱۲۰	رسم وغیر رسم کا معیار	۱۳۰	میں داخل ہے
۱۲۱	غلو فی الدین کی ممانعت	۱۳۰	مستحب کیسے بدعت بن جاتا ہے
۱۲۲	جاز کے دو درجے	۱۳۱	سنت و بدعت کی چار چار قسمیں اور بدعت
۱۲۳	<b>الباب السابع</b>		حسن و سنیہ، حقیقیہ و صورتیہ کی تفصیل
۱۲۳	اصولی بحث	۱۳۲	حقیقت میں سنت و بدعت کی صرف ایک ہی
۱۲۳	<b>فصل نمبر ۱</b>		قسم ہے
۱۲۳	عرف و رواج کا بیان	۱۳۳	سنن عادیہ و سنن عبادیہ کے حدود سنن
۱۲۳	ادب کا مدار عرف پر ہے		عادیہ کا حکم
۱۲۳	باپ کو رخصت کرنا عرف کی بناء پر ممنوع ہے	۱۳۳	اسوۂ نبی کی دو صورتیں قولی و عملی
۱۲۳	بجائے شکر یہ اور جزاک اللہ کے تسلیم کہنا	۱۳۶	سنن عادیہ و عبادیہ کے قابل ترک اور
۱۲۳	عرف کی بناء پر عادات و بدعات بھی شعائر		ناجائز ہونے کا ضابطہ
۱۲۳	اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں	۱۳۷	اجماع سنت کی دو قسمیں
۱۲۵	تسمیہ بالکفار کا مدار بھی عرف پر ہے	۱۳۸	بدعت حسنہ و سیرہ کی تعریف
		۱۳۸	<b>فصل نمبر ۲</b>
		۱۳۸	التزام مالا یلزم کی تعریف

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۳	میز کرسی پر کھانا کھانے کی بابت اظہار خیال	۱۳۵	حق تعالیٰ کیلئے صیغہ واحد کا استعمال اور
۵۳	لندن میں کوٹ چٹلون پہننے میں تشبہ نہیں ہے	۱۳۶	قرآن مجید کے ادب کا دار و مدار عرف پر ہے
۵۳	تشبہ ختم ہو جانے کی پہچان	۱۳۷	منبر پر قرآن شریف رکھنا بجا دبی ہے یا نہیں
۵۳	تشبہ کے حکم میں اٹکنہ و ازمنہ کے لحاظ سے فرق	۱۳۷	عرفی ادب کا ثبوت
۵۳	شیر وانی پہننے کا حکم اور یہ کہ اس میں تشبہ ہو گا یا نہیں	۱۳۸	کبھی عرفی ادب فوق الامر ہوتا ہے
۵۵	دستر خوان میں پانی کی بوتلیں رکھنا	۱۳۸	<b>فصل نمبر ۲</b>
۵۵	میز کرسی پر اظہار کرنا	۱۳۸	تشبہ کا بیان
۵۶	تشبہ سے متعلق ایک مسئلہ	۱۳۸	تشبہ کا مسئلہ نص قرآنی سے ثابت ہے
۵۶	کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یہ جملہ تشبہ کی بنا پر ممنوع ہے	۱۳۹	تشبہ کے ممنوع ہونے کی دلیل
۵۷	<b>فصل نمبر ۳</b>	۱۳۹	حدیث پاک سے
۵۷	عموم بلوئی کا بیان	۱۳۹	تشبہ کے ممنوع ہونے کی عقلی و عرفی دلیل
۵۷	عموم بلوئی کے معتبر ہونے کا ضابطہ	۱۵۰	تشبہ کی تعریف اور رفع تشبہ کی پہچان
۵۷	مسائل مجتہد فیہا میں عموم بلوئی معتبر ہے	۱۵۰	تشبہ ناقص و کامل دونوں مذموم اور ممنوع ہیں
۵۷	عوام کی رعایت کرنے کا ثبوت اور اس کے حدود	۱۵۰	میز کی طرح تپائیوں پر رکھ کر کھانا کھانے کا حکم
۵۸	محققین کا مسلک	۱۶۱	تشبہ کی اقسام و احکام
		۱۵۲	تشبہ کے احکام کا خلاصہ
		۱۵۳	تشبہ کے درجات
		۱۵۳	شیوع ہو جانے اور رسم و عادت غالبہ بن جانے سے تشبہ ختم ہو جاتا ہے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۶	<b>فصل نمبر ۵:</b>	۱۵۸	عموم بلوئی اور ضرورت عامہ خود مستقل دلیل نہیں
۶۶	تاویل کرنے کا ضابطہ	۱۵۹	عموم بلوئی اور ضرورت عامہ کی بناء پر توسع فی المسائل کے حدود
۶۶	نصوص میں تاویل کرنے کا قاعدہ	۱۶۰	عوام کی رعایت کی ایک مثال
۶۶	تاویل کی تعریف	۱۶۰	عموم بلوئی اور ضرورت پر متفرع چند جزئیات
۶۶	تاویل کرنے کا ثبوت	۱۶۱	”تعامل“ جس کا فقہاء نے اعتبار کیا اسکی تحقیق
۶۷	کسی کے قول و عمل میں تاویل کرنے کا ضابطہ	۱۶۲	<b>فصل نمبر ۴</b>
۶۷	تاویل کی حقیقت اور اہل حق ہوئی کی تاویل کا فرق	۱۶۲	حیلہ کا بیان
۶۸	استدلال و اعتبار کی حقیقت اور دونوں کا فرق	۱۶۳	حیلہ کی دو قسمیں اور ان کا حکم
۱۶۹	تاویل کرنے کے معیار	۱۶۳	حیلہ کے جائز ہونے کے دو معنی (صحت و حلت کا فرق)
۶۹	<b>فصل نمبر ۶</b>	۱۶۳	حیلہ کی ایک قسم استدلال بالا لفاظ نہ کہ بالمعنی اور اس کے شرائط
۱۶۹	قربات میں ایثار کرنے کی تحقیق	۱۶۳	شرعی حیلہ کا محل و موقع
۱۶۹	قائلین جواز کی دلیل اور اس کا جواب	۱۶۳	حیلہ معاملات میں ہوتا ہے نہ عبادات میں
۱۶۹	ایثار فی القربات میں محققین کا نظریہ	۱۶۳	حیلہ کے صحیح ہونے نہ ہونے کا ضابطہ
۱۶۹	محقق و راجح قول	۱۶۵	ایسے حیلوں کی حرمت کی دلیل
۷۲	<b>فصل نمبر ۷</b>	۱۶۵	باطل حیلہ کی مثال
۷۲	تداخل عبادتیں کا مسئلہ		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۸۱	کفر و ایمان ارتداد و نفاق شرک، کتابی اور دھری کی تعریف	۱۷۳	<b>فصل نمبر ۸:</b>
۱۸۱	فتنہ کی تعریف	۱۷۳	نیت کا بیان
۱۸۱	قریبہ مقصودہ کی تعریف	۱۷۳	حدیث ”انما الاعمال بالنیات“
۸۲	محال شرعی کی تعریف	۱۷۴	”انما الاعمال بالنیات“ کا اصولی اختلاف
۸۲	مخالفت نص کی تعریف	۱۷۵	کیا بغیر نیت کے بھی ثواب مل سکتا ہے
۸۲	اسراف کی تعریف	۱۷۵	بغیر نیت کے ثواب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق
۸۳	تجسس کی تعریف	۱۷۶	نیت کرنے کا قاعدہ
۸۳	رشوت کی تعریف	۱۷۶	نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے
۸۳	شرعی ضرورت کی تعریف اور اس کی اقسام	۱۷۷	لیکن معصیت مباح نہیں ہوتی
۸۳	ضرورت کی تعریف میں عموم	۱۷۷	انفاق فی سبیل اللہ میں نیت کے اعتبار سے تین قسمیں
۸۳	ضرورت کا معیار اور اس کے درجات	۱۷۷	
۸۵	ضرورت کی تعریف	۱۷۸	<b>الباب الثامن</b>
۸۵	تسخیر کی تعریف	۱۷۸	تعریفات
۱۸۶	شرعی قدرت و استطاعت کی تعریف و تقسیم	۱۷۸	اسلام کی حقیقت اور اس کی تعریف
۸۷	مسکوت عنہ اور منہی عنہ کی تعریف	۱۷۹	مشرک و مشرک اکبر اور استقلال کی تعریف
۸۷	ترک (کف انفس) تعریف و تقسیم	۱۷۹	شکر اصغر کی تعریف
۸۸	تقلید شخصی کی تعریف	۱۸۰	اقسام مشرک: مشرک فی العلم
۸۸	حکمہ کی تعریف	۱۸۰	شکر فی التصرف
۸۸	تحریف کی تعریف	۱۸۰	شکر فی العبادۃ
۸۸	حدیث متواتر کی تعریف	۱۸۰	شکر فی العادۃ
۱۸۹	ذوق بطیب نفس (دلی رضامندی) کی تعریف	۱۸۰	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۹۵	علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی تعریف	۱۸۹	شبہ کی تعریف
۱۹۵	حقیقت اور معرفت کی تعریف	۱۸۹	غیبت کی تعریف
۱۹۶	کبر کی تعریف	۱۹۰	ذلت کی تعریف
۱۹۶	تکبر کی تعریف	۱۹۰	اشراف نفس کی تعریف
۱۹۶	تواضع کی تعریف	۱۹۰	دنیا کی تعریف
۹۷	عجب کی تعریف	۱۹۰	مولوی کی تعریف
۹۷	حسب جاہ کی تعریف	۱۹۱	واردات کی تعریف
۹۷	ریا کاری کی تعریف	۱۹۱	ولی کی تعریف
۹۷	وقار کی تعریف	۱۹۲	نفس اور مجاہدہ کی تعریف
۹۷	تعصب کی تعریف	۱۹۲	کرامت کی تعریف
۹۸	حیاء و شرم کی تعریف	۱۹۲	تصوف کی تعریف
۹۸	بغض فی اللہ کی تعریف	۱۹۲	خشوع و خضوع کی تعریف
۹۸	برکت کی تعریف	۱۹۳	نسبت کی تعریف
۹۸	جہالت بسیرہ کی تعریف	۱۹۳	تفویض اور عشق کی تعریف
۹۸	طعام واحد کی تعریف	۱۹۳	توجہ و تصرف کی تعریف
۱۹۹	اخلاص کی تعریف	۱۹۳	وجد کی تعریف
۱۹۹	تصوف کی تعریف	۱۹۳	استدراج اور کشف و کرامت کی تعریف
۱۹۹	فنا کی تعریف	۱۹۳	زہد کی تعریف
۱۹۹	مولوی اور عالم کی تعریف	۱۹۳	حرص کی تعریف
۲۰۰	مجذوب کی تعریف و تحقیق	۱۹۴	صوفی کی تعریف
		۱۹۵	نفس کی تعریف و تقسیم
		۱۹۵	جذب کی تعریف و تقسیم



صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۰۷	تکبر اور شرم کا فرق	۲۰	<b>الباب التاسع</b>
۲۰۷	اجازت و حضورہ کا فرق	۲۰	الفروق
۲۰۸	سنگدلی اور یکسوئی کا فرق	۲۰	علت و حکمت کا فرق
۲۰۸	گفتگو اور وعدہ کی فرق	۲۰	جلب و منفعت اور رفع مضرت کا فرق
۲۰۹	اسلام و ایمان کا فرق	۲۰۲	تقلید اور بیعت کا فرق
۲۰۹	تملیک و اباحت کا فرق	۲۰۲	تصرف اور کرامت کا فرق
۲۰۹	دین و دنیا کا فرق اور اس کا معیار	۲۰۲	کشف اور فراست کا فرق
۲۱۰	وسوسہ اور طبع و اشرف کا فرق	۲۰۳	عقل و کشف کا فرق
۲۱۰	تجربہ اور عقل کا فرق	۲۰۳	خواب و الہام کا فرق
۲۱۰	حسن و جمال کا فرق	۲۰۳	شعبدہ اور معجزہ کا فرق
۲۱۱	حدود و قیود کی تعریف اور فرق	۲۰۳	تعظیم اور عبادت کا فرق
		۲۰۳	موجد اور مشرک کا فرق
		۲۰۳	تعصب اور تصلب کا فرق
		۲۰۵	تکونین و شریعت اور علم موسوی و علم
			خضری کا فرق
		۲۰۵	شریعت و طریقت کا فرق
		۲۰۶	تکبر و حیا کا فرق
		۲۰۶	جمال و زینت اور تکبر کا فرق
		۲۰۶	وقار اور تکبر کا فرق
		۲۰۷	تاویل اور تحریف کا فرق
		۲۰۷	زینت اور تفاخر میں فرق

## انمول موتی

عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی دامت برکاتہم  
ناظم و بانی جامعہ عربیہ ہتوراباندھ (یوپی)

اللہ پاک کا اس امت پر خصوصی کرم اور احسان ہے کہ دور رسالت کے بعد بھی ہر زمانے میں ایسے مصلحین پیدا ہوتے رہتے ہیں جو لوگوں کی جاہلانہ رسومات و عادات اور بدعات و خرافات کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں۔ انہیں منتخب بندوں میں سے ایسی ایک ہستی حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (جامع معقولات و منقولات متبع سنت عالم باعمل) کی ہے۔ جن کے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے زندگی کے ہر شعبہ میں مشعل راہ ہیں۔ ان کی پوری زندگی تعلیم و تبلیغ و ترویج سنت میں گزری۔

لیکن یہ بھی سنت الہی ہے کہ جن بندگان خدا کو منشاء خداوندی اور طریق انبیاء علیہم السلام سے خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے ان کو تکلفیں بھی بہت پیش آتی ہیں۔ وہ اہل ہوئی و ہوس کی طرف سے تکذیب و ایذاء افتراء پروازیوں اور ظالمانہ زبان درازیوں کا نشانہ بھی بنتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا کا یہ تکوینی اور غیبی نظام ہے کہ اللہ پاک اپنے ایسے مخصوص بندوں کی مدد بھی کرتا ہے جس سے مخالفین کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔

حضرت حکیم الامت کی تحریر و تقریر کا پیش بہا خزانہ آج بھی موجود ہے جس سے مخلوق فیضیاب ہو رہی ہے۔ اسی خزانہ کے کچھ اصول موتیوں کو مفتی محمد زید سلمہ، مدرس جامعہ عربیہ، تورانے بہترین ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے۔ جس سے ہر طبقہ با آسانی استفادہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک مؤلف کو جزاء خیر عطا فرمائے اور اس مجموعہ کو ہر ایک کے لئے نافع بنائے۔ آمین۔

احقر صدیق احمد غفرلہ

خادم جامعہ عربیہ، تورانہ

(۱۸ ربیع الثانی ۱۳۱۰ھ)

مغز و جوہر

ارشاد گرامی

سیح الامۃ حضرت مولانا سیح اللہ خان صاحب جلال آبادی

دامت فیوضہم

خلیفہ اجل حکیم الامت حضرت تھانویؒ

ماشاء اللہ بہت خوب کام کیا۔ بے حد خوشی کی بات ہے۔ اس زمانہ میں ضرورت ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و افادات کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ حضرتؒ کی تعلیمات شریعت کا مغز و جوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی کتابت و طباعت و اشاعت کے اسباب مہیا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو استفادہ افادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

یکشنبہ ۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۰ھ

## چشمہ فیض

حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - اما بعد

ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے کاموں میں جو برکت فرمائی ہے اس کی مثال قرون اولیٰ میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے۔ فقہ و فتاویٰ ہوں یا علوم تفسیر، اسرار و حکم ہوں یا آداب و معاشرت شرح حدیث ہو یا سلوک و تصوف، علم کا کونسا گوشہ ایسا ہے جس میں آنحضرت نے کتابوں کے انبار نہیں لگا دیئے! خاص طور پر مواعظ و ملفوظات کا اتنا بڑا ذخیرہ امت کے لئے باقیات صالحات کے طور پر چھوڑ گئے ہیں کہ عمر نوح چاہئے اس کی سرسری سیر ہی کے لئے!

تصانیف تو چونکہ موضوع دار ہوتی ہیں، اس لئے ان میں سے مضامین تلاش کرنا آسان ہوتا ہے مگر مواعظ و ملفوظات کی صورت حال دوسری ہوتی ہے۔ ان میں مضامین موتیوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں، اس لئے ان کو کسی لڑی میں پروانے کی شدید حاجت تھی تاکہ ان کو عقد الجید بنایا جاسکے۔ مجھے خوشی ہے کہ جناب مولانا محمد زید صاحب زید نمبر ہم نے محنت شاقہ برداشت کر کے ان مضامین کو موضوع دار اور عنادین کے تحت جمع کر دیا ہے۔ میں نے حضرت قدس سرہ کے افادات کا یہ مجموعہ بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے اور خوب خوب استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خاص طور پر علماء، طلبہ اور اہل مدارس کو اس چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی توفیق عطاء فرمائیں۔ (آمین)

کتبہ: سعید احمد عفا اللہ عنہ، پالنپوری خادم دارالعلوم دیوبند ۵-۵-۱۳۱۰ھ

## تعارف و تاثر

مؤرخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری مدظلہ العالی  
سرپرست شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ!

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ متوفی ۴۱۲ھ نے طبقات الصوفیہ میں ایک بزرگ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سلف صالحین کی باتوں میں تاثیر و افادیت ہوتی ہے اور ان سے فیض پہنچتا ہے اور ہمارے زمانے کے اہل علم کی باتوں میں یہ چیز مفقود ہے؟ اس بزرگ نے اس کے جواب میں کہا کہ اسلاف صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی خدمت کے لئے کلام کرتے تھے اور ہم اپنے نفس اور دنیا کے لئے بات کرتے ہیں۔

واقعہ یہی ہے کہ اہل اللہ اور اہل دل سیدھے سادے مواعظ و ملفوظات اور ان کی کتابوں میں جو تاثیر و افادیت پائی جاتی ہے وہ دوسرے اہل علم کی فصیح و بلیغ تقریر و تحریر میں نہیں پائی جاتی، ہمارے دور میں اس کی بہترین مثال حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والاصفات ہے وہ اپنے ہمہ جہت دینی و علمی اور اصلاحی خدمات میں امت وحدادہ (ایک انجمن) معلوم ہوتی ہے، اور جن کے مواعظ و ملفوظات اور تصانیف میں بے پناہ افادیت و جاذبیت ہے۔ عوام اور اہل علم دونوں طبقے ان سے مستفیض ہوتے ہیں، مشائخ کی خانقاہوں سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک ان کے فیوض و برکات عام ہیں، ایک مرتبہ جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان کے ایوان صدر میں مصری، سفدری اور عراقی علماء و فضلاء میں گرما گرمی ہو گئی،

مرحوم محمد فنیاء الحق صاحب نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان علماء سے کہو کہ ہمارے یہاں ایک مولانا اشرف علی تھانویؒ ہوا کرتے تھے، ان کا کہنا تھا، فقہ کے چاروں امام برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرو اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ چاروں راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت تھانویؒ امت کے ہر طبقہ کے مسلم بزرگ و مقتداء ہیں۔ ضرورت ہے کہ لاکھوں صفحات میں بکھرے ہوئے جواہر پاروں کو علیحدہ علیحدہ عنوانات کے ماتحت ان کے ملفوظات و مواعظ اور تصانیف کو یکجا کر کے بہتر سے بہتر انداز میں عام کیا جائے تاکہ ان سے مزید استفادہ کی راہ پیدا ہو، اور اس کام میں کتاب سازی اور کتاب فروشی کا جذبہ نہ ہو بلکہ خالص دینی خدمت کا حوصلہ کار فرما ہو۔ حضرت تھانوی کے مقتدین و متوسلین اس سلسلہ میں کام کئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مقام مسرت ہے کہ محترم و مکرم جناب ملا ناصدتیق احمد صاحب باندوی ابقاہ اللہ کی نگرانی میں ادارہ افادات اشرفیہ ہتورا باندہ نے ذمہ دارانہ طور سے اس خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور مولانا مفتی محمد زید مظاہری ندوی بڑے سلیقہ سے ان جواہر پاروں کو الگ الگ عنوانات سے یکجا کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ کی پہلی کتاب ”اعظم و العلماء“ ہاتھ میں پہنچ رہی ہے جس کو مولانا موصوف نے حضرت تھانوی کے مواعظ و ملفوظات اور تصانیف سے بڑی دیدہ وری سے جمع کیا ہے۔ اس کتاب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ اس سلسلہ کی جو کتابیں سامنے آئیں گی ان میں حضرت تھانوی کے علمی فیوض و برکات کا انمول ذخیرہ ہوگا اور اس سلسلہ اشاعت سے بڑا فیض پہنچے گا۔

انشاء اللہ

قاضی اطہر مبارک پوری دارالعلوم دیوبند

۱۶ رجب ۱۴۱۰ھ

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## رائے عالی

حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب دامت برکاتہم  
مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اضْطَفٰی

دارالعلوم دیوبند نے بہت سارے علماء و مشائخ پیدا کئے ہیں، جن کے ذریعہ کتاب و سنت کی اشاعت و ترویج عمل میں آئی، اور خواص و عوام کو دین کی روشنی ملی۔ ان میں جامع المجد دین، حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ، ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ اپنی زندگی میں آپ نے جہاں بیعت و ارشاد کی راہ سے لاکھوں انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا اور انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کی سعی فرمائی، وہیں تصنیف و تالیف اور اپنے مواعظ و ملفوظات کے راستے سے علم و فن کا ایک ایسا عظیم ذخیرہ فراہم کر گئے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک ہم طالبانِ علوم نبوت کے دل و دماغ کو نور بخشارہے گا اور ملت اسلامیہ اس نورانی کرنوں سے مستفید ہوتی رہے گی۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم تھا کہ حکیم الامت کی ساری علمی چیزیں آپ کی زندگی میں ہی قلم بند ہو کر طبع ہو گئیں۔ حالانکہ اس زمانہ میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا مگر باس ہمہ آپ کا کوئی جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا ہو شاید ضائع نہیں ہونے پایا۔ آپ کے معتقدین و متوسلین نے تحریری طور پر ساری چیزوں کو ہم آنے والوں کے لئے محفوظ کر دیا۔ جن حضرات نے حضرت تھانویؒ کی تصانیف اور مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کیا ہے وہ شہادت دیں گے کہ ان میں علوم و معارف کا کتنا قیمتی مواد جمع ہو گیا ہے اور ان



کے مطالعہ سے دل و دماغ کیسے اثرات قبول کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر علمی زندگی کس طرح سنورتی چلی جاتی ہے۔

حضرت مولانا عبدالباری ندوی مرحوم کے بعد اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد زید مظاہری زید مجدہ کو حضرت تھانوی کی تصانیف و تالیفات اور مواظظ و موقوفات کے مطالعہ کا خاص شغف عطا فرمایا ہے اور ساتھ ہی ان کو سلیقہ کے ساتھ مرتب کرنے کا جذبہ صادق بھی۔ مولانا موصوف ہم سب کی طرف سے لائق صد مبارک باد ہیں کہ وہ اس ذخیرہ علمی تھانوی سے مختلف عنوانات پر کتابیں مرتب فرما کر امت کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ پوری امت اس کو پڑھ کر علم و عمل میں رسوخ پیدا کرے اور اپنے علمی و عملی کمزوریوں کو با آسانی دور کر سکے۔ اس وقت آپ کی دوسری کتاب ”فقہ و اصول فقہ“ پیش نظر ہے۔ جس میں آپ نے حضرت تھانوی کی کتابوں سے فقہ و اصول فقہ سے متعلق ساری بکھری ہوئی باتوں کو یکجا کر دیا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح مجموعی طور پر بہت سارے دلائل شرعیہ اصول فقہ کی روشنی میں جمع ہو گئے ہیں۔ انشاء اللہ کلیات پر بھی بحث ہے اور جزئیات حکم کی باتیں بھی آئی ہیں اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بھی۔ مصالح اسباب کے مباحث بھی ہیں اور فرائض و جوب کے بھی۔ واردات و احوال بھی ہیں اور دوسرے احکام و مسائل بھی پڑھتے جائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آنکھوں سے پردے اٹھتے جا رہے ہیں اور علوم و فنون کی باتیں ذہنوں میں راسخ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے سے انشاء اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل صالح میں بھی، پڑھنے والوں میں کوئی بھی خیر محروم نہ رہے گا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی اس گراں قدر خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے مراتب بلند کرے۔ آمین یا رب العالمین۔

۵ محرم ۱۴۱۱ھ

طالب دعا: محمد ظفر الدین غفرلہ مفتی دارالعلوم دیوبند

## پیش لفظ

### از مرتب

اصول فقہ کے موضوع پر مجتہدین کے زمانہ سے اہل فقہ و فتاویٰ کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مذاہب حقہ میں سے ہر مسلک و مذہب کے اصول پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فقہ حنفی کے مسلک اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے متعدد محققین احناف نے اصول فقہ پر تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے۔

متاخرین فقہاء کے مدون کردہ اصول فقہ کی دو قسمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ اصول فقہ جس میں الفاظ و معانی کے اعتبار سے عام خاص..... ظاہر خفی..... عبارت النص..... اشارۃ النص..... وغیرہ مباحث ذکر کئے جاتے ہیں جو عموماً اصول الشاشی، نور الانوار حسامی اور عام اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور اور مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ اصول فقہ کا ایک حصہ اور بھی ہے جو اس سے کچھ مختلف ہے جس کے مضامین و مباحث اس سے جداگانہ ہوتے ہیں۔ مثلاً انما الاعمال بالنیات، الاثار فی القربات، العبرة لعموم اللفظ، من ابتلی ببلیتین فلیتحرأھونھما، جیسے اصولی قواعد اور عرف رواج، تشبیہ، عموم بلوئی، حیلہ، تاویل، تحریف، تدخل عبادتین، علت و حکمت وغیرہ اصولی مباحث ہوتے ہیں۔

اس موضوع پر بھی اصولیین نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ علامہ ابن نجیم اور علامہ سیوطیؒ نے الاشباہ والنظائر میں اصول فقہ کو موضوع بنایا ہے اور علامہ ابن قیمؒ نے بھی اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں اسی قسم کے مباحث کا ذکر فرمایا ہے اور علامہ شاطبیؒ نے بھی الموفقات میں انہی مباحث کو لیا ہے۔

اقادیرت اور اہمیت و ضرورت کے اعتبار سے اصول فقہ کا یہ شعبہ پہلے شعبہ کے

مقابلہ میں زیادہ مفید اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس حصہ میں ایسے اصول بیان کئے جاتے ہیں جن کی ضرورت ہر زمانہ میں ہر مفتی کو بکثرت پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ افتاء کے لئے علماء نے اس قسم کی کتاب الاشیاء والنظار کو لازمی قرار دیا ہے۔

لیکن اردو میں اصول فقہ پر بے شمار کتابیں ہونے کے باوجود مؤخر الذکر اصول الفقہ پر اردو میں کوئی کتاب نظر میں نہیں آئی اور میرے علم کے مطابق نہ کسی نے اصول فقہ کے اس حصہ پر قلم اٹھایا۔ البتہ بعض مقالے و مضامین ضرور مختلف لوگوں نے تحریر فرمائے۔ پیش نظر رسالہ ”فقہ حنفی کے اصول و ضوابط“ میں حکیم الامت مجدد ملت کے گرانقدر ملفوظات پیش بہا مواعظ اور جملہ محققان تصانیف کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے اور اصول فقہ سے متعلق حضرت تھانوی کے کلام میں جو بھی بات موجود تھی ان تمام شہ پاروں کو حسن ترتیب کے ساتھ جن جن کراصول فقہ کی لڑی میں پرودیا گیا ہے۔ اس رسالہ میں اصول فقہ پر ایسے مباحث بکثرت موجود ہیں جو الاشیاء والنظار وغیرہ کتابوں میں موجود ہیں اور ان کتابوں سے زیادہ حضرت کے کلام سے تفصیلی و تسلی نیز مزید بصیرت و رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مفید ابواب شامل ہیں۔ اصول فقہ کی حیثیت اور اس کا مقام، اصول فقہ کے ذوالوجہ مجتہد پر الزام کی حقیقت، ظن، کشف، فراست، قیافہ محر شراح من قبلنا کی شرعی حیثیت اور آخر میں اصطلاح شرع میں استعمال ہونے والی تقریباً سبھی الفاظ کی تعریفات اور صد ہا قریب المعنی الفاظ کا باہمی فرق وغیرہ دیگر نہایت مفید اہم مباحث تعلیمات حکیم الامت سے جن جن کرا شامل کئے گئے ہیں اور اصول فقہ سے متعلق ہر پہلو پر جامع کلام موجود ہے۔ یہ رسالہ فقہ اصول فقہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے انتہائی ضروری اور قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ اصول فقہ پر ایک ایسا عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا ہے جو اس قابل ہے کہ الاشیاء والنظار کی طرح نصاب کا جز قرار دیا جائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

محمد زید

جامعہ عربیہ باندہ یوپی

۱۱ رجب ۱۴۱۰ھ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### الباب الاول

#### فقہ کسے کہتے ہیں

مقاصد نصوص کا سمجھنا فقہ ہے۔ جس میں حق تعالیٰ نے متقدمین کو فضیلت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ اسی عمق فہم کی وجہ سے امام ہیں، اس خاص صفت میں ائمہ مجتہدین سب سے ممتاز ہیں اور کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ رہا یہ کہ پھر یا ہم مجتہدین میں کون افضل ہیں، سو اس کے بیان کرنے کو ہمارا منہ نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ فقہاء میں تقاضل کریں کیونکہ اول تو یہ ہمارا درجہ نہیں، دوسرے ہمارے اندر احتیاط نہیں، ہم تقاضل کے وقت دوسرے کی تنقیص کر دیتے ہیں۔

#### فقہ کی تعریف

فقہ کی امام صاحب نے تعریف کی ہے۔ ”مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا“ (ترجمہ) منافع اخروی کے اعتبار سے نفس کا پہچاننا۔ یہ عام ہے اعمال ظاہری و باطنی سب کو۔ تو تصوف اور فقہ میں منافات کہاں ہے۔ پہلے لوگ فقہ اور تصوف کے جامع ہوا کرتے تھے۔

سلف میں فقہ فقط احکام ظاہر کے علم کا نام نہ تھا بلکہ مجموعہ احکام ظاہرہ و باطنہ کے علم کو فقہ کہتے تھے جس میں تصوف بھی داخل ہے۔

امام مالک کا قول مشہور ہے ”مَنْ تَفَقَّهَهُ وَلَمْ يَتَّصِفْ فَقَدْ تَقَشَّفَ  
وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهَهُ فَقَدْ تَزُنَّدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ“  
جس نے بغیر تصوف کے فقہ حاصل کیا وہ متشرف ہو گیا اور جو بغیر فقہ کے صوفی  
بن گیا وہ زندیق ہو گیا، اور جس نے دونوں باتیں جمع کر لیں وہ محقق ہو گیا۔  
یہ روایت میں نے جامع التفسیر مصنفہ نواب قطب الدین خان صاحب میں  
دیکھی ہے۔

## تفقہ فی الدین کی حقیقت

(تفقہ فی الدین تو) اور چیز ہے اگر وہ صرف الفاظ کا سمجھنا ہوتا تو کفار بھی تو  
الفاظ سمجھتے تھے وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے۔ ”تفقہ فی الدین“ یہ ہے کہ  
الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت ہو۔ سوائے لوگ حنفیہ میں بکثرت  
ہیں۔

فقہ تمام فنون میں سب سے زیادہ مشکل اور بہت نازک ہے  
فرمایا کہ مجھے تو تمام علوم و فنون میں فقہ سب سے مشکل معلوم ہوتا ہے اور تو انصافاً  
بھی فرمایا کہ مجھے تو اس فن سے مناسبت نہیں، بالکل عاجز ہو جاتا ہوں۔ ۳  
فقہ کا فن بہت دقیق ہے۔ اس لئے میں فقہ حنفی کے سوا کسی دوسرے مذہب کی  
فقہی کتاب طلباء کو پڑھانے کی جرأت نہیں کرتا۔ (اشرف المعاملات صفحہ ۹)  
فقہ کا فن بڑا ہی نازک ہے۔ میں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوں، جب کوئی فتویٰ  
یا مسئلہ سامنے آتا ہے دور دور کے احتمالات ذہن میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں  
اب فتویٰ میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں اور بعض لوگ اسی کے اندر زیادہ بے باک

ہیں۔ حالانکہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ۱۔

## کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے

کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں، فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے، جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اور اس نور کو حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لیں، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب تم لاکھ کتابیں پڑھتے پڑھاتے رہو مگر چونکہ دین کی سمجھ نہیں رہی تم فقیہ نہیں ہو سکتے۔

اور وہ نور فقہ طاعات سے بڑھتا ہے اور معاصی سے سلب ہو جاتا ہے جو فقیہ مطیع اور متقی نہ ہو وہ کتابوں کا فقیہ ہے۔ حقیقی فقیہ نہیں اور نہ اس کے واسطے وہ بشارت ہے جو فقیہ کے واسطے حدیث میں مذکور ہے۔ اس لئے خاتمہ سے اطمینان کسی حال میں فقیہ کو بھی نہیں ہو سکتا۔

اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے تو اس میں کیا شبہ کہ فقیہ صوفی ضرور ہوگا۔ ہمارے فقہاء جتنے ہوئے ہیں سب صاحب نسبت اور صاحب معرفت تھے۔ نسبت اور معرفت کے بغیر دین کی سمجھ کامل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی فقہاء کی شان میں فرمایا گیا ہے۔ **فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ**۔ کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ شیطان کے فریبوں کو خوب سمجھے گا اور اس کی ایک چال بھی نہ چلنے دے گا اور کورے عابد کو تو شیطان جس طرح چاہے پی پڑھا سکتا ہے۔ ۲۔

## فقہاء کا مقام اور ان کی مقبولیت

سچ تو یہ ہے کہ فقہاء کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ معانی کے خواص کو پہچانتے ہیں بخلاف حکماء کے کہ ان کی نظر صرف اجسام کے خواص پر منحصر ہے۔ ا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دو فریقے دین کے محافظ ہیں۔ ۱۔ فقہاء اور ۲۔ صوفیاء۔ اور فقہاء کا وجود تو مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی۔

علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے مگر فقہاء کو معلوم ہے کہ خدا کو ان کے ساتھ بھلائی منظور ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے مَنْ يُؤدِّ اللّٰهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ جس کے ساتھ خدا کو بھلائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ یعنی فقہ عطا کرتے ہیں۔

امام محمدؒ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا اے محمدؐ مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میری مقفرت کر دی جائے۔ جواب ملا کہ اگر ہم تم کو بخشا نہ چاہتے تو فقہ عطاء نہ کرتے۔ ہم نے تم کو فقہ اسی لئے عطا کیا تھا کہ تم کو بخشا منظور تھا۔ لیکن اس سے مامون العاقبہ ہونا لازم نہیں آتا۔

یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ فقہاء پر سوء خاتمہ کا اندیشہ بالکل نہیں۔ اس لئے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر حق تعالیٰ فقیہ کو عذاب دینا چاہیں گے تو فقہ کو اس سے سلب کر لیں گے۔ ب۔

## اصول فقہ کے ذریعہ کسی مجتہد پر اعتراض کرنا صحیح نہیں

وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے۔ لوگوں نے اس کے واسطے قواعد منضبط ضرور کئے ہیں (جن کو اصول فقہ کہتے ہیں) لیکن وہ قواعد خود محیط نہیں۔ اس کی مثال علم نحو کی ہے جس میں کلام کی ترکیب کے قواعد منضبط کئے گئے ہیں اور یہ علم بہت مفید ہے۔ لیکن اس کی انضباط کا مقصود یہ نہیں کہ اہل زبان اس کے پابند ہوں اور اس لئے اس کا احاطہ پورا کیا گیا ہو، بلکہ محض غیر اہل زبان کے واسطے اہل زبان کا کلام سمجھنے اور ان کے ساتھ مکالمت کرنے کا آلہ ہے۔ پس اگر اہل زبان سے کوئی کلام ثابت ہو جائے جس میں قواعد نحو جاری نہ ہو سکیں تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اہل زبان نے غلطی کی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ علم نحو میں اتنا نقص تھا کہ یہ قاعدہ ضبط سے رہ گیا۔ اسی طرح مجتہد کو اصول فقہ سے الزام دینا صحیح نہیں بلکہ ہو سکتا ہے ایسے موقع پر جہاں مجتہد کا قول اصول پر منطبق نہ ہوتا ہو۔ یہ کہنا چاہئے کہ علم اصول (فقہ) ناقص رہا، اس تقریر کے بعد یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ مجتہد کے پاس اس کے قول کی کوئی دلیل نہیں۔ ۱۔

## اصول فقہ کی حیثیت

نصوص متعارضہ میں ایک کی ترجیح ذوق مجتہدین سے ہوئی ہے باقی جو قواعد کتب اصول میں مذکور ہیں ان کا تو کہیں اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا مگر علماء نے اسناد مفاسد کے لئے ان اصول کو مجتہدین ہی کی فروع سے نکالا ہے تاکہ ہر کسی کو اجتہاد میں آزادی نہ ہو تو گویا یہ اصول ان مسائل پر متفرع ہیں مسائل ان پر متفرع نہیں۔ نیز اس میں ضبط بھی سہل ہے۔ ۲۔



## مجتہدین متقدمین اور متاخرین کے اصول کا فرق

مجتہدین میں ایک مخصوص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نصوص سے ایسے اصول کو مستنبط کرتے ہیں کہ وہ اصول نونئے نہیں اور جو اصول متاخرین نے مجتہدین کی تفریعات سے استنباط کئے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ۱۔

مجتہدین کے بیان کردہ مسائل میں اگر کچھ شبہ ہو تو

ہم اس کے ذمہ دار نہیں

مسائل پر اگر کچھ شبہات ہوں تو ان کا جواب دینا ہم لوگوں کے ذمہ نہیں کیونکہ ہم لوگ مسائل کے ناقل میں بانی نہیں جیسے تو انین کے متعلق اگر کوئی شبہ یا خدشہ ہو تو اس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہ ہے جج یا وکیل کے ذمہ نہیں ہے۔

## فقہاء کے بیان کردہ جزئیات کا حکم

اگر کسی اور جزئی میں بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے تو (اس کو بھی) چھوڑ دیں گے اور تقلید کے خلاف نہیں۔ آخر بعض مواقع میں امام صاحب کے اقوال کو بھی تو چھوڑا گیا ہے۔ ہاں جس جگہ حدیث کے متعدد محمل ہوں وہاں جس محمل پر مجتہد نے عمل کیا ہم اسی پر عمل کریں گے۔

اور خود امام صاحب ہوتے اور اس وقت اس سے دریافت کیا جاتا تو وہ بھی یہی فرماتے تو گویا اس چھوڑنے میں بھی امام صاحب ہی کی اطاعت ہے۔ ۲۔

صوفیاء میں انتظام عام کی شان نہیں ہوتی اس واسطے بہت سے اعمال کو حد جواز تک کر گزرتے ہیں اور فقہاء میں چونکہ انتظام کی شان ہوتی ہے اس واسطے بہت سے مباحات اور منہوبات کو جن سے عوام کے مفاسد میں پڑ جانے کا خطرہ ہو منع کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے فقہاء نے سماع کو علی الاطلاق منع کیا ہے۔ ۱۔

## فقہاء اور محدثین کا فرق

محدثین کا مطمح نظر روایت ہوتی ہے اور فقہاء درایت سے کام لیتے ہیں۔ جیسے غناء محدثین کے نزدیک بلا مزامیر جائز ہے کیونکہ حدیث میں لفظ ”معاذف“ کا آیا ہے اور فقہاء کے نزدیک بلا مزامیر بھی جائز نہیں کیونکہ وہ علت کو سمجھتے ہیں اور وہ (علت) خوف فتنہ ہے اور وہ جیسے مزامیر میں ہے صرف غناء میں بھی موجود ہے، محدثین نص سے تجاویز نہیں کرتے اور فقہاء اصل منشاء حکم کو معلوم کر کے دیگر مواقع تک حکم کو متحدی کرتے ہیں۔ ۲۔

## فقہاء اور محققین کی شان اور ان کی پہچان

فقہاء کو جامع ہونا چاہئے، فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، متکلم بھی، سیاسی دماغ بھی رکھتا ہو، بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض امور میں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

محقق کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے وہ حقیقت کا جویاں ہوتا ہے لایعنی باتوں میں نہیں پڑتا، صحابہ کی شان بھی یہی تھی۔ ۳۔

محققین کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ سب پہلوؤں کا احاطہ خدا کا کام ہے تو ایک ایک پہلو پر نظر

جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔ وسیع النظر اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے محققین کی نسبت کوئی برالفاظ بھی کہنا پسند نہیں کرتا۔ ائمہ مجتہدین کا اختلاف اسی قسم کا ہے اور ایک شان محقق کی یہ ہوتی ہے کہ فضول مباحثہ سے بچتا ہے اور غیر محقق اور غبی سے (محققانہ) گفتگو نہیں کرتا بلکہ اگر غبی سے گفتگو ہو تو ذرا دیر میں خاموش ہو جاتا ہے۔ جس کو عوام ہارنا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نا حقیقت شناس (اور غبی) کو سمجھانا وہ مشکل سمجھتا ہے۔ ۱

## ہماری اور فقہاء کی مثال

فقہاء بھی اپنی تحقیق پر ضابطہ کے دلائل بیان کرتے ہیں مگر ان دلائل کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں والا عصا لے کر چلے تو اس کا چلنا عصا پر موقوف نہیں۔ فقہاء کو حق تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی تھیں جس کو ذوق اجتہادی کہتے ہیں ان کو ضرورت ان عصاؤں کی نہ تھی مگر ہم کو ضرورت ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اس کا سارا انداز ہی عصا پر ہے۔ اگر وہ عصا لے کر نہ چلے تو وہ خندق میں گہرے گا۔  
بعض باتیں وجدانی اور ذوقی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا ذوق صحیح کس طرح پیدا ہو۔ فرمایا اہل ذوق کی خدمت سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ۲

## الباب الثانی

### دلائل شرعیہ کا بیان

دلائل شرعی چار ہیں:

دلائل شرعیہ چار ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس، جو امران دلائل چہارگانہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو۔ وہ دین میں معتبر ہوگا ورنہ رد ہے۔ یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چار میں سے کسی ایک کو نہ مانا جائے اور یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چاروں سے تجاوز کیا جائے۔ (۱)

### فصل نمبر ۱..... اجماع

اجماع کا ثبوت:

امام شافعیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ اس کے جواب کے لئے آپ نے چار مرتبہ کلام مجید ختم کیا۔ جب یہ آیت خیال میں آئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ الْاٰیۃِ حَسَّ مِنْ اِجْمَاعِ كَافِرًا ہوتا ہے۔ ۲

اجماع کی حقیقت:

اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ کسی عصر کے جمیع علماء کسی امر دینی پر اتفاق کر لیں، اور اگر کوئی عہد آیا خطا اس اتفاق سے خارج رہے تو اس کے پاس کوئی دلیل محتمل صحت نہ

۱ دعوت عبدیت صفحہ ۱۱۹، ج ۱۱۵ الغناء المجازفہ۔ ۲ الاقاضاۃ الیومیہ صفحہ ۳۷۱، ج ۹۔ ۳ دعوات عبدیت

صفحہ ۱۲۱، ج ۱۵۔ الغناء المجازفہ

ہو اور خطا میں وہ معذور بھی ہوگا، غرض مطلقاً عدم شرکت مضر تحقق اجماع نہیں ورنہ قرآن مجید کے یقیناً محفوظ اور متواتر ہونے کا دعویٰ مشکل ہو جائے گا کیونکہ احادیث بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ عنہ آیات منسوخۃ التلاوة کو داخل قرآن، اور حضرت ابو درداء سورہ واللیل کی آیت وما خلق الذکر میں کلمہ وما خلق کو اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو خارج قرآن سمجھتے تھے۔

حالانکہ ایک ساعت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی قائل نہیں بلکہ سب اس کو تمام ازمہ کے اعتبار سے یقینی اور محفوظ سمجھتے رہے اور چونکہ ان حضرات کو استدلال میں یقیناً غلطی ہوئی اس لئے کسی نے سلفاً و خلفاً اس کو مضر و مغل اجماع نہیں سمجھا۔ البتہ ان کو بھی شبہ کی وجہ سے معذور سمجھا۔ وہ حدیثیں یہ ہیں۔ الخ۔ ۱۔

## ظنی اجماع:

یا تو مراد اجماع سے اتفاق اکثر امت ہے اور گویا ایسا اجماع ظنی ہوگا، مگر دعویٰ ظنی کے اثبات کے لئے دلیل ظنی کافی ہے اور ہر اختلاف قاعدہ اجماع نہیں۔ ۲۔

## فصل نمبر ۲..... قیاس کا بیان

### قیاس کی تعریف:

فما اعتباروا یا اولی الابصار۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قیاس بھی حجت ہے۔ ۱۔ حجت شرعیہ صرف قیاس فقہی ہے جس کا حاصل بضرورت عمل اشتراک علت کی وجہ سے حکم کا تعدیہ کرنا ہے مقیس علیہ سے مقیس کی طرف اور چونکہ اصل حکم منصوص میں بھی موثر ہے اور وہی علت ہے اور وہ مقیس میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے اس کے حکم کو بھی نص کی طرف مستند کیا جاتا ہے۔ ۲۔

## قیاس کی مثال:

قیاس مظہر ہوتا ہے اور مثبت نص ہی ہوتی ہے جیسے کل مسکر حرام ہے اور ایون بھی مسکر ہے (اس لئے) وہ بھی حرام ہے پس مثبت حرمت ایون کی بھی نص ہی ہوگی۔

## قیاس کرنے یا نہ کرنے کا حکم:

جس امر میں نص ہو اگر وہ احکام فقہ جواز میں سے ہے تو اس میں قیاس کرنا فَاغْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَغَيْرِهِ نصوص سے مامور ہے اور اگر وہ احکام شرعیہ سے نہ ہو تو اس میں قیاس کرنا لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَغَيْرِهِ نصوص سے منہی ہے۔

کیا ملائکہ اور مجذوبین بھی قیاس کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے؟

فرمایا میرا رحمان پہلے اس طرف تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے، محض امر صریح کے متبع ہیں اور ملائکہ کے متعلق بھی خیال تھا کہ وہ بھی محض نصوص کے متبع ہیں مگر ”حدیث جبریل“ اِنَّهُ دَسَّ الطَّيْنِ فِيْ فَمٍ فِرْعَوْنَ مَخَافَةَ اَنْ تُذْرِكَهُ الرَّحْمَةُ (روایت بالماصل) نیز حدیث الْقَاتِلِ الثَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ اِخْتَلَفَ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ“ سے اس طرف رحمان ہو گیا ہے کہ ملائکہ، اجتہاد بھی کرتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ الْمَجْذُوْبِيْنَ وَزَادَ الرَّجْحَانُ بِقِصَّةِ الْاِشْرَاقِ اَنَّ الْمَجْذُوْبِيْنَ مُخْتَلِفُوْنَ فِيْ اَحْكَامِ بَقَاءِ السُّلْطَنَةِ وَتَبَدُّلِهَا۔

واقعة حدیث القاتل الثائب من الذنب یا توبہ میں اختلاف تھا اس لئے

ملائکہ نے اجتہاد کیا جو فیصلہ کے وقت ایک غلط بھی ثابت ہو اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بعض اوقات قواعد کلیہ بتادیئے جاتے ہیں جب ہی تو ان کو اجتہاد کی نوبت آتی۔

## فصل نمبر ۳..... علم اعتبار کا بیان

### علم اعتبار کی حقیقت:

علم اعتبار کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مشبہ کو دوسرے مشبہ پہ سے واضح کیا جائے۔ ثابت نہ کیا جائے بلکہ مشبہ دلیل آخر سے ثابت ہے اور یہ نہ مجاز میں داخل ہے خواہ مجاز مرسل ہو خواہ استعارہ۔ کیونکہ مجاز میں موضوع کے مراد نہ ہونے پر قرینہ ہوتا ہے اس لئے غیر موضوع لہ مراد ہوتا ہے اور یہاں نہ موضوع لہ کے غیر مراد ہونے کا کوئی قرینہ ہے۔ نہ غیر موضوع لہ مراد ہے اور نہ یہ کناہیہ میں داخل ہے کیونکہ کناہیہ میں معنی موضوع لہ متروک نہیں ہوتے بلکہ کلام کا مدلول اصلی وہی موضوع لہ ہوتا ہے۔ مگر مقصود اس کا لازم یا ملزوم ہوتا ہے جیسے طویل التجاد کہ اس میں مدلول وضعی متروک نہیں مدلول کلام وہی ہے مگر مقصود طویل القامة ہے کیونکہ طویل التجاد کے لئے طویل القامة لازم ہے اور اعتبار میں وہ معنی نہ مقصود ہے نہ مدلول کلام ہے۔ پس یہ اعتبار گویا قیاس تصرفی ہے اور مشابہ ہے قیاس فقہی کے۔ مگر عین قیاس فقہی نہیں کیونکہ قیاس فقہی میں علت جامعہ موثر ہے حکم مقیس میں اس لئے وہ حکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں۔ صرف مقیس مقیس علیہ میں تشابہ ہے اور اس مشابہت کا حکم میں کوئی اثر نہیں بلکہ وہ حکم خود مستقل دلیل سے ثابت ہے۔ یہ حقیقت ہے علم اعتبار کی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

کی تفسیر میں فرمایا لَیْسَ الْقُلُوبُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالْأَفْقَدُ عِلْمَ أَحْيَاءِ الْأَرْضِ مُشَاهِدَةٌ یعنی یہاں ارض سے مراد قلوب ہیں..... یہ بھی علم اعتبار ہی ہے اور الا فقد علم اَحْيَاءِ الْاَرْضِ سے مشہور تفسیر کی نفی کرنا مقصود نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اے مخاطب تجھ کو اس آیت میں ظاہری مدلول پر اکتفا نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ تو ظاہر ہی ہے بلکہ اس سے قلوب کی طرف انتقال کرنا چاہئے کہ دلوں کی بھی وہی حالت ہے جو زمین کی حالت ہے۔ یہ روایات میرے رسالہ مسائل السلوک میں مذکور ہیں۔ ان آثار وغیرہ سے ثابت ہو گیا کہ علم اعتبار صوفیہ کی بدعت نہیں نصوص میں اس کی اصل موجود ہے۔ پس جو لوگ علم اعتبار کی رعایت کرتے ہیں صوفیہ پر زندقہ اور الحاد کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ ۱۔

یہ لطائف اور تاویلات اور نکات کے درجہ میں ہیں تفسیر نہیں اور ان کو علوم قرآنیہ نہیں کہہ سکتے۔ ۲۔

### صوری قیاس اور اس کا حکم:

غیر مدلول قرآنی کو مدلول قرآنی پر کسی مناسبت و مشابہت سے قیاس کر لیا جائے۔ یہ حقیقی قیاس نہیں محض صورت قیاس کی ہے۔ اس لئے قیاس کے احکام ثابت نہیں۔ یہ قیاس حجت شرعیہ نہیں..... اس لئے اس قیاس سے اس حکم کو نص کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ حجت شرعیہ صرف قیاس فقہی ہے۔ ۳۔

### صوری قیاس کے اقسام تفاؤل، اعتبار، تعبیر:

پھر آگے ان میں ایک تفصیل ہے جس سے دونوں کا درجہ جدا جدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر غیر مدلول قرآنی مقصود دینی ہے تو اس (صوری قیاس کا درجہ علم اعتبار ہے اور وہ

(۱) التبلیغ نمبر ۱۲۔ غایۃ النجاح صفحہ ۲۲۸، صفحہ ۲۲۹۔ (۲) اشرف الجواب صفحہ ۳۱۲، ج ۲۔ (۳) بوادور



امت کا معمول رہا ہے بشرطیکہ اس کو درجہ تعبیر تک پہنچایا جائے اور اگر وہ غیر مدلول قرآنی مقصود دنیوی ہے تو اس قیاس کا درجہ فال متخارف یا شاعری سے زیادہ نہیں۔ گویا مقیاس صحیح ہی ہو یا اتفاق سے صحیح ہو جائے۔ پس جو درجہ اس شاعری یا اس تقاول کا ہے یہی درجہ اس قیاس متکلم فیہ کا ہے۔

ایک علم جو بوجہ انتساب الی الصحاء اس (اس تقاول و شاعری) سے بھی اشرف ہے یعنی تعبیر رویا اس کا مدار بھی ایسے ہی مناسبات پر ہے۔ اس کو بھی نہ کوئی قابل تحصیل سمجھتا ہے اور نہ کسی درجہ میں اس کو حجت سمجھتا ہے۔ ۱۔

علم اعتبار علم تعبیر سے اشرف ہے:

علم اعتبار علم تعبیر سے بھی اشرف ہے اور اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تعبیر سے تو فقط احکام تکونیہ پر استدلال کیا جاتا ہے اور علم اعتبار سے خالص احکام شرعیہ پر دو درجہ اشرف ہوا۔ ۲۔

قیاس فقہی اور قیاس تصرفی کا فرق اور دونوں کا حکم:

علم اعتبار یہ ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر منطبق کر کے سبق حاصل کیا جائے۔ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استخراج کیا جائے اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے۔ ۳۔

ایسے استنباطات کا درجہ فقہی قیاس سے بھی کم ہے نہ وہ اشارات یقینی ہیں نہ ان سے تعبیر مقصود ہے، خود وہ علم بھی قابل تحصیل نہیں بلکہ بلا تحصیل ہی جس کے ذہن کو ان مناسبات سے مناسبت ہوگی وہ ایسے استدلال پر قادر ہوگا، گو علم و فضل میں کوئی معتد بہ درجہ نہ رکھتا ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ فقہی قیاس میں تو غیر منصوص کو منصوص کے ساتھ لاحق کر کے اس پر حکم کرتے ہیں اور وہ بھی جہاں مستقل دلیل نہ ہو یہ غیر منصوص بھی علت کے واسطے سے نص کا مدلول ہوتا ہے اور قیاس محض مظہر ہے۔ اور صوفیہ کے قیاسات (علم اعتبار) اگر اور دلیل سے ثابت نہ ہوں تو ان نصوص سے ثابت ہی نہیں ہوتے۔ یہ اعتبار محض ایک تشبیہ کا درجہ ہے جس میں وجہ تشبیہ موثر فی الحکم نہیں ہوتی۔

استدلال تو مفہوم لغوی سے ہوتا ہے۔ ان طرق کے ساتھ جو اہل معانی و اصول نے بیان کئے ہیں اور اعتبار تشبیہ و اشارہ کے طور پر ہوتا ہے۔

### علم اعتبار کا قرآن سے ثبوت:

اور ان دونوں کی اصل قرآن سے ثابت ہے۔ دوسرے طریق کا نام خود قرآن ہی میں آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ** اس سے اوپر بونظیر کے جلا وطن کئے جانے کا قصہ مذکور ہے جس کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو یعنی اگر تم ایسی حرکت کرو گے جو ان لوگوں نے کی ہے تو اپنے واسطے بھی اس عذاب کو تیار سمجھو اور یہی تو علم اعتبار ہے کہ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا جائے اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے۔

### علم اعتبار کی مثال:

**إِذْ هَبَّ الٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی** کے تحت صوفیہ نے لکھا ہے **اِذْ هَبَّ يَارُوْحُ الٰی النَّفْسِ وَجَاهِدَهَا اِنَّهَا قَدْ طَغَتْ** کہ اے روح نفس کی طرف جا اور اس سے جہاد کر کے اس کو مغلوب کر کہ وہ حد سے نکلا جا رہا ہے۔ صوفیاء کی مراد تفسیر کرنا نہیں ہے

بلکہ مراد یہ ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے تو قرآن کے قصوں کو محض قصہ سمجھ کر نہ پڑھ بلکہ ان سے سبق حاصل کر کیونکہ قرآن کریم میں جو قصے ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّخَلْقٍ أُولِي بَالٍ۔ پس جب تو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو اس سے یہ سبق حاصل کر کہ تیرے اندر بھی ایک چیز موسیٰ کے اور ایک چیز فرعون کے مشابہ ہے یعنی روح اور نفس ایک داعی الی الخیر ہے جو مشابہ موسیٰ علیہ السلام کے ہے۔ دوسرے داعی الی الشر ہے جو مشابہ فرعون ملعون ہے۔ پس تو بھی اپنے روح کو نفس پر غالب کرنا اور نافرمانیوں سے باز آ جا یہ علم اعتبار ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر منطبق کر کے سبق حاصل کیا جائے۔ ۱۔

### علم اعتبار یا قیاس تصرفی کی دلیل:

رہا یہ سوال کہ جس طرح صوفیاء نے علم اعتبار کا استعمال کیا ہے کیا نصوص میں بھی استعمال آیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بجز اللہ اس کی نظیر نصوص میں بھی موجود ہے اور میں یہ بات خود نہیں کہتا بلکہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے قول سے میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ اتنے بڑے محقق نے دو حدیثوں کے متعلق ”فوز الکبیر“ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ تقدیر کا مسئلہ ارشاد فرمایا۔ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ لَهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَعْمَلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ۔ حضور ﷺ نے فرمایا اَعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسِرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسِّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ الخ۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَلَّى بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ الْآيَةَ۔

اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقدیر کا ذکر کہاں ہے؟ آیت کا مدلول تو یہ

ہے کہ اعطاء و تقویٰ سے جنت آسان ہو جاتی ہے اور بخل و استغناء سے دوزخ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب شاہ صاحب نے دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بطور علم اعتبار کے اس آیت کے مضمون سے حدیث کے مضمون پر اشتہاد فرمایا ہے اور مقصود تشبیہ دینا ہے کہ جیسے بواسطہ بعض اعمال کے بعض کے لئے جنت اور بعض کے لئے دوزخ کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بواسطہ تقدیر کے بعض کے لئے اعمال صالحہ کو بعض کے لئے معاصی کو آسان کر دیا ہے اور یہ تشبیہ محض توضیح کے لئے ہے کہ تقدیر سے تیسیر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس آیت میں تیسیر اعمال سے مذکور ہے۔ پس مقصود تشبیہ سے توضیح ہے۔ شاہ صاحب نے حدیث کی شرح میں علم اعتبار کی اصل قرآن سے تطلائی ہے۔ ۱۔

حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے۔ بڑے شخص کے سر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں خود اتنی بڑی بات نہیں کہتا۔ کیونکہ یہ بڑا دعویٰ ہے اور اگر کوئی شاہ صاحب کے قول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر وہ ان حدیثوں کی شرح کر دے یقیناً ان حدیثوں میں کوئی علم وہی ہے جو ربط بجز اس کے جو شاہ صاحب نے فرمایا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ شاہ صاحب ۲۔

## فصل ۳..... علت و حکمت کا بیان

اجتہاد کے ذریعہ حکم کی علت کو سمجھ کر اس کو متعدی کرنا جائز ہے:

اجتہاد سے جس طرح حکم کا استنباط کرنا جائز ہے اسی طرح اجتہاد سے حدیث کو معطل سمجھ کر مقتضاء علت پر عمل کرنا جائز ہے جس کا حاصل کلام وضعیہ کی تعیین ہے۔ مثل احکام تکلیفیہ کے، یا احد الوجوہ پر محمول کرنا، یا مطلق کو مقید کرنا اور ظاہر الفاظ پر عمل نہ

کرنا ایسا اجتہاد بھی جائز ہے۔ ۱۔

**علت نکالنے کا کس کو اور کن مواقع میں حق ہے:**

ہر شخص کو عمل بیان کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ مجتہد کو حق ہے اور مجتہد کو بھی ہمیشہ حق نہیں بلکہ وہاں تعلیل کا حق ہے جہاں تعدیہ حکم کی ضرورت ہے اور جو امور تعدیہ ہوں جن کا تعدیہ نہیں ہو سکتا وہاں قیاس کا مجتہد کو بھی حق نہیں۔ اسی لئے فقہاء کرام نے صلوة و صوم، زکوٰۃ و حج میں تعلیل بیان نہیں کی، ان کی فرضیت کی بناء تعدیہ ہے۔ ۲۔

**ہر شخص کو علت نکالنے کی اجازت نہیں:**

میں نے ان کو لکھا کہ احکام شریعت میں آپ کو کیا حق ہے علت نکالنے کا۔ اگر اس طرح وجہ نکالی جائے تو کوئی حلال حلال اور کوئی حرام حرام نہ رہے کیونکہ ہر شخص اپنی منشاء کے مطابق علت نکال لے گا۔ حلت کی یا حرمت کی، مثلاً کسی نے حرمت زنا کی یہ علت نکالی کہ اس سے اختلاط نسب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کئی مرد ایک عورت سے صحبت کریں اور پھر حمل رہ جائے تو ممکن ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے نسب کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں ان میں سخت جنگ و جدال کا اندیشہ ہے اور ممکن ہے کہ ہر ایک انکار کر دے تو اس صورت میں اس عورت اور بچے پر سخت مصیبت ہوگی۔ اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی تدبیر کرے کہ علق کا احتمال ہی نہ رہے مثلاً کوئی ایسی دوائی استعمال کر لی یا کوئی عورت سن ایسا کو پہنچ گئی یا مثلاً زانیوں کی کسی خاص جماعت میں محبت و اخوت ہو جائے جس سے احتمال بھی جنگ و جدال کا نہ رہے تو اس صورت میں زنا جائز ہو جانا چاہئے کیونکہ وہ علت یہاں مرتفع ہے اور دوسرے کا حق متعلق نہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟

تو کیا زنا جائز ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، حالانکہ جو علت بتلائی گئی ہے وہ مرفوع

ہے۔ ۱۔

ہر ایک کو حکم کی علت دریافت کرنا صحیح نہیں:

حاکم کی طرف سے کوئی حکم صادر ہو تو ہرگز (اس حکم) کی علت نہیں پوچھتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکام کی عظمت ہے اس لئے حجت نہیں کرتے۔ سو جب خدا تعالیٰ کے احکام کی علت دریافت کی جاتی ہے اس سے تو شبہ پڑتا ہے کہ ان کے دل میں حق تعالیٰ کی عظمت نہیں، غرض محکوم ہونے کی حیثیت سے علت دریافت کرنا عقلاً بے ہودہ امر ہے۔ ہاں طالب علمی کی حیثیت سے بغرض تحقیق فن مضائقہ نہیں مگر وہ منصب صرف طالب علموں کا ہے۔

خیال تو کیجئے کہ کلکٹر کا منادی جب حکم کی اطلاع کرتا ہے تو کوئی علت نہیں پوچھتا۔ افسوس ہے کہ علماء کو بھنگی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگے ہیں۔ علماء درحقیقت منادی کرنے والے اور احکام کے ناقل ہیں خود موجد نہیں۔ اس لئے ان سے علتیں پوچھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ۲۔

احکام شرعیہ کی علتیں عوام کے سامنے بیان بھی نہ کرنا چاہئے:

فرمایا کہ احکام شرعیہ کی علت عوام کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنی چاہئے بلکہ ضوابط کی پابندی کرانی چاہئے، ورنہ خطرہ کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے جیسا کہ صاحب کلکٹر نے ایک مجرم کو کسی دفعہ کی بناء پر سزا کا حکم کر دیا اور فوراً اس کی تعیل ہو گئی مگر وہ مجرم اس دفعہ کی علت ہرگز دریافت نہیں کر سکتا اور جرأت کر کے دریافت بھی کر لے گا تو کلکٹر اس کو ڈانٹ دے گا کہ ہم نہیں جانتے بس قانون یہ ہے

اور اگرچہ ہم علت جانتے بھی ہیں مگر بتاتے نہیں (اور اگر اس کا شوق ہی ہو تو) سنو اس کے لئے تعلیمِ فن کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس آ کر ترتیب وار پڑھو پھر اپنے وقت پر جو امر سمجھنے کا ہے وہ سمجھ لیں اور خود آجائے گا دریافت کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔

کیوں صاحب کیا یہی انصاف ہے کہ حاکمِ دنیوی کا فیصلہ تو بسروچشم مان لیں اور کچھ اعتراض نہ کریں اور احکامِ شرعیہ پر سینکڑوں اعتراض کریں۔ بس معلوم ہوا کہ شریعت کی قدر اتنی بھی نہیں جتنی حاکمِ دنیوی کی ہے۔ ۱۔

### اسرار و حکم کا فقہی حکم:

نہ اس کا ماننا واجب ہے..... البتہ ان میں سے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اشارات سے ان کی تائید ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کا قائل ہونا جائز ہے اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کا رد واجب ہے اور اگر کتاب و سنت سے نہ متاثر ہوں نہ اس کے خلاف ہوں تو اس میں جانبداری کی گنجائش ہے۔ ۲۔

### علت اور حکمت کا فرق:

آج کل یہ مرض لوگوں میں عام ہے کہ وہ احکام کی علت تلاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کو علت سمجھ کر اس کو جواب میں پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ علت کی حقیقت مَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ ہے اور حکمت کی حقیقت مَا يَتَرْتَبُ عَلَى الْحُكْمِ ہے۔ اور تعین حکمت چونکہ اکثر جگہ نص سے نہیں مھس امر قیاسی ہے لہذا حکمِ مختصرہ میں مخالفتِ جانب کا بھی قوی احتمال باقی رہتا ہے۔ پس اگر کسی وقت میں یہ حکمتِ مختصرہ مخدوش ہو جائے تو معلل کی نظر میں اس سے حکمِ خداوندی بھی مخدوش ہو جائے گا۔ ۳۔

۱۔ دعوتِ عبدیت صفحہ ۱۳۸ ج ۱۲ اشرف الجواب صفحہ ۲۵ ج ۳۔ ۲۔ بوادر النوار صفحہ ۷۷ ج ۲۔ ۳۔ دعوت

عبدیت صفحہ ۲۶ ج ۱۹۔

علت ماہرتب علیہ الحکم کو کہتے ہیں اور حکمت خود مرتب علی الحکم ہوتی ہے تو دونوں جدا جدا ہیں۔ ۱

حکمت پر احکام کے مبنی نہ ہونے کی دلیل:

① جو لوگ مصالح مختصرہ کو بناء احکام شرعیہ تعبدیہ کی قرار دیتے ہیں ان کا رد اس سے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت بلالؓ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى تو اس میں ان کے فعل کا سبب نفی اور استثناء کر کے منحصر فرمایا۔ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ میں حالانکہ اس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قومی ہمدردی ہے۔

② دوسری طرف اس میں بڑی قباحت یہ ہے کہ اگر وہ دنیوی مصالح کسی دوسرے طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پر ان کے مرتب ہونے کی توقع نہ رہے تو چونکہ اسلام کو مقصود بالعرض رکھا ہے اور مصالح دنیوی کو مقصود بالذات، اس لئے نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں گے۔

③ تیسرے یہ مصالح ہیں تخمینی اور تخمینات بہت آسانی سے مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر یہ کبھی مخدوش ہو جائیں تو چونکہ حکم شرعی اس پر مبنی سمجھا گیا تھا لہذا وہ حکم بھی مخدوش ہو جائے گا۔ ۲

منصوص حکمت بھی مدار حکم نہیں:

حکمت سے حکم متعدی نہیں ہوتا نہ حکم کا وجود و عدم اس کے ساتھ دائر ہوتا ہے اور یہ عدم دوران حکمت منصوصہ میں بھی عام ہے جیسے طواف میں رمل کے اس کی بناء ایک



حکمت تھی مگر وہ مدار حکم نہیں۔ ۱۔

علت و حکمت کا واضح فرق مع مثال اور احکام شرعیہ میں بیان  
کر دہ علت کی حیثیت:

احکام شرعیہ کے ساتھ جو کبھی مصلحت مذکور ہوتی ہے، وہ کبھی علت ہوتی ہے اور کبھی  
حکمت ہوتی ہے۔ علت کے ساتھ تو حکم وجوداً و عدماً دائر ہوتا ہے، لیکن حکم کے ساتھ دائر  
نہیں ہوتا یعنی حکمت کے تبدیل سے حکم نہیں بدلتا اور اس فرق کا سمجھنا یہ راہنما فی العلم کا  
خاصہ ہے۔ پس (لعینۃ کے مسئلہ میں حدیث پاک میں) خَصَالِفُو الْمُشْرِكِينَ مَقْرُون  
فرمانا بطور حکمت ہے۔

بطور علت کے نہیں حرمت کا مدار تغیر یعنی صورت کا بگاڑنا ہے نہ مخالفت و دلیل  
اس کی یہ ہے کہ بعض احادیث میں جو یہ حکم آیا ہے وہ اس سے مطلق ہے۔ جیسا کہ  
لَعْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَشِّينَ مِنَ الرِّجَالِ میں۔ اس کی مثال  
ایسی ہے کہ کوئی حاکم رعایا سے کہے کہ دیکھو قانون کو مانو فلاں قوم کی طرح شورش مت  
کرو تو اگر وہ قوم اتفاق سے شورش چھوڑ دے تو کیا اس حالت میں رعایا کو اس قوم کے  
ساتھ اس میں بھی مخالفت کرنا چاہئے۔ اس بنا پر کہ پہلے ان کی مخالفت کا حکم ہوا تھا۔ ۲۔

کتاب اللہ میں بیان کر دہ علل کی حیثیت:

قرآن میں جہاں کہیں حکم کے بعد لام غایت آیا ہے وہ علت نہیں ہے حکمت  
ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم پر یہ اثر مرتب ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ حکم کی بناء اس  
پر ہے۔ ۳۔

## اسرار و حکم کی تحقیق کرنے کی بابت قول فیصل:

اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل مدار احکام شرعیہ کے ثبوت کا نصوص شرعیہ ہیں۔ لیکن اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں کہ باوجود اس کے پھر بھی ان احکام میں بہت سے مصالح اور اسرار بھی ہیں اور گو مدار ثبوت احکام کا ان پر نہ ہو لیکن ان میں یہ خاصیت ضرور ہے کہ بعض طبائع کے لئے ان کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں مزید اطمینان پیدا ہونے کے لئے ایک درجہ میں معین ضرور ہے۔ گواہل یقین راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض ضعفاء کے لئے تسلی بخش اور قوت بخش ہے۔ اسی راز کے سبب بہت سے اکابر علماء مثلاً امام غزالی و خطابی و ابن عبدالسلام وغیرہم کے کلام میں اس قسم کے معانی و لطائف پائے جاتے ہیں۔

جن احکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں ان کو مبانی و مناشی احکام کا نہ سمجھے بلکہ خود ان کو احکام سے ناشی سمجھے۔ ان شرائط کے ساتھ حکمتوں کے سمجھنے کا مضائقہ نہیں۔<sup>۱</sup> سالم روش یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ احکام میں حکمتوں کا ہونا یقینی ہے لیکن تعین چونکہ شارع نے نہیں کی اس لئے ہم بھی نہیں کرتے اور ہمارے امتثال کی بناءً صرف حکم باری ہے گو ہم کو حکمت معلوم نہ ہو۔ اگر یہ علوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابہ ان کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے۔<sup>۲</sup>

## فصل نمبر ۵:.....ظن کا بیان

### ظن کے مختلف معانی:

قرآن پاک کا نزول محاورات میں ہوا ہے اور محاورات سے معلوم ہوتا ہے کہ ظن کے معنی صرف وہ نہیں جو ”ملاحسن“ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ قرآن ہی کے چند مقامات کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ محاورات میں ظن کے معنی عام طور سے محض حکم کی جانب راجح کے ساتھ مختص نہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں **وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ..... الَّذِينَ يَظُنُّونَ الْخ**۔ یہاں ظن سے مراد یقین ہے کیونکہ لقاء رب کا یقین جازم واجب ہے اور ایک جگہ حق تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کفار کا مقولہ نقل فرمایا ہے۔ **إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُصْبِحِينَ** یہاں بھی ظن سے مراد معنی اصطلاحی نہیں ہیں کیونکہ کفار کو وقوع معاد کا ظن غالب و راجح بھی نہ تھا۔ وہ تو بالکل ہی مکرر و مذبذب تھے۔ چنانچہ خود قرآن میں ہے **بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ الْخ** پس یہاں ظن سے مراد مرجوح بھی مراد نہیں۔ کیونکہ ان کو تو قیامت کا احتمال بھی نہ تھا۔ ان سب موارد کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ محاورہ میں ظن کے معنی خیال کے ہیں خواہ وہ خیال صحیح ہو یا باطل قوی ہو یا ضعیف، اس کو پیش نظر رکھ کر تمام آیات کو دیکھئے سب حل ہو جائیں گی اور کوئی اشکال نہ رہے گا۔ چنانچہ **إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا** میں بھی ظن سے مراد مجرد خیال بلا دلیل ہے۔ ۱۔

### ظن کی اصطلاحی تعریف اور اس کی حجیت:

ظن اصطلاحی جو کہ مفید ہے وہ خیال مع الدلیل ہے۔ دلائل شرعیہ سے اس کا معتبر و حجت ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بعض

آیات مجملہ و مشککہ بھی ہیں۔ سب کی سب مفسر و محکم ہی نہیں ہیں اور جب بعض آیات مجمل و مشکل بھی ہیں تو ان کی کوئی تفسیر قطعی نہیں تو ظنی ہوگی۔ اب اگر ظن مطلقاً غیر معتبر ہے تو آیات مجملہ و مشککہ بالکل متروک العمل ہو جائیں گی۔ حالانکہ ان کا کوئی قائل نہیں۔ ۱۔

### ظن کے معتبر ہونے کا محل و موقع:

ظن کا عقائد میں دخل نہیں البتہ فقہیات میں ہے کیونکہ فقہ میں ضرورت عمل کی ہے اور عقائد میں کوئی گاڑی انگی ہے اس کو طالب علم یاد رکھیں۔ ۲۔  
عقائد قطعیہ کے لئے ضرورت ہے دلیل قطعی کی جو ثبوتاً بھی قطعی ہو اور دلالتاً بھی قطعی ہو اور عقائد ظنیہ کے لئے دلیل ظنی کافی ہے بشرطیکہ اپنے مانوق کے ساتھ معارض نہ ہو ورنہ دلیل مانوق ماخوذ ہوگی اور یہ دلیل متروک ہوگی۔ ۳۔

احکام کا دار و مدار ظن غالب پر ہوتا ہے نہ کہ امر موہوم پر:

کسی شے میں نفع موہوم ہو اور خطرہ غالب ہو تو وہ شے حرام ہوگی۔ (مثلاً) چاند کے سفر میں نفع تو موہوم اور غیر ضروری اور خطرہ غالب تو یہ سفر حرام ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الْآیۃ ۳۔

ظنی ہونے کا مقتضی:

ظنی ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جانب مخالف کا اس میں شبہ رہتا ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہے تو ہوا کرے اس سے مسئلہ کی ظلیت کی تاکید و تقویت ہوتی ہے۔ ایسے شبہ سے کچھ حرج نہیں۔ ۵۔

۱۔ صفحہ ۱۹۶ بدیع۔ ۲۔ بوادر النوار صفحہ ۸۸۲۔ ۳۔ بوادر النوار صفحہ ۸۸۲۔ ۴۔ انفاس بھنی صفحہ ۳۹۰۔

ج۔ ۱۔ ۵۔ مجالس حکیم الامت صفحہ ۱۷۲۔

## حسن ظن کا آخری مرحلہ:

منجہا حسن ظن یہ ہے کہ خود اس کے فعل میں تاویل مناسب کر کے اس کو قواعد شرعیہ کے تابع بنا دے نہ یہ کہ شریعت میں تبدیل کر کے شریعت کو اس کے تابع بنا دے۔!

ظن کے محمود و مذموم اور مقبول و غیر مقبول ہونے کا معیار:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اہل علم کو اس مقام پر شبہ ہو جایا کرتا ہے کہ شریعت میں تو ظن کا اعتبار کیا گیا ہے۔ چنانچہ خبر واحد اور قیاس ظنی ہے ظن وہ معتبر ہے جس کا استناد نص کی طرف ہے۔ چنانچہ خبر واحد جو ظنی ہے تو وہ اصل ہی میں ظنی الثبوت نہیں ہے، محض اس کی سند میں ظن عارض ہو گیا ہے ورنہ بحیثیت حدیث رسول ہونے کے وہ فی نفسہ قطعی ہے۔ اسی طرح قیاس گو اصل ہی میں ظن ہے لیکن وہ خود مثبت نہیں ہے بلکہ مظہر ہے اور مثبت تو نص ہے اور قیاس اس کی طرف مستند ہے۔ اور جس ظن پر ملامت ہے اس سے مراد وہ ظن ہے جس کا مستند نص نہ ہو محض تخمین اور رائے اس کا منشاء ہو۔

زرا گمان جو دلائل شرعیہ سے ماخوذ نہ ہو وہ مثبت نہیں، تا وقتیکہ اس ظن کا کوئی مستند شرعی نہ ہو دین کے بارے میں کارآمد نہیں۔

دین کی قید اس لئے لگائی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی امر میں کوئی گمان مفید نہ ہو۔ چنانچہ طب میں چونکہ وہ دین کا امر نہیں ظن معتبر ہے۔

البتہ امر دنیوی میں بھی جہاں جس ظن کی ممانعت ہے وہاں اس پر عمل جائز نہیں۔ مقصود یہ کہ دین کے بارے میں گمان اصلاً کوئی چیز نہیں خواہ وہ گمان کرنے والا کتنا ہی بڑا ذہین ہو اور عاقل ہو دین کے بارے میں جب تک دلیل شرعی نہ ہوگی اس

کا خیال معتبر نہ ہوگا۔ ۱۔

## ظن کے اقسام و احکام:

ظن کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک واجب جسے ظن فقہی غیر منصوص میں اور حسن ظن مع اللہ اور دوسرا مباح جیسے ظن امور معاش میں، اور ایسے شخص کے ساتھ بدگمانی کرنا جس میں اعلانیہ علامات فسق کے پائے جاتے ہیں۔ جیسے شراب خانوں اور فاحشہ عورتوں کی دکانوں میں کسی کی آمد و رفت ہو اور اس پر فسق کا گمان ہو جائے جائز ہے مگر یقین نہ کرے۔ اسی طرح سوء ظن غیر اختیاری ہو اس کے متقاضی پر عمل نہ ہو اس میں بھی گناہ نہیں بشرطیکہ حتی الامکان اس کو دفع کرے۔

اور تیسرا احرام جیسے الہیات و نبات میں بلا دلیل قاطع اور کلامیات و فقہیات میں خلاف دلیل قاطع ظن کرنا، یا جس میں علامات فسق کے قوی نہ ہوں بلکہ ظاہراً اصلاح کے آثار نمودار ہوں اس کے ساتھ سوء ظن کرنا یہ حرام ہے۔ ۲۔

## معاملات میں سوء ظن کا حکم:

سوء ظن کے متقاضی پر عمل کرنا مظنون بہ کے حق میں تو حرام ہے، جیسے اس کی تحقیر کرنا اس کو ضرر پہنچانا (لیکن) خود ظان کو اپنے حق میں جائز ہے بایں معنی کہ اس کی مضرت سے خود بچے۔ ۳۔

فرمایا کہ معاملات میں سوء ظن چاہئے اور اعتقاد میں حسن ظن اور معاملات میں سوء ظن سے مراد ہے کہ جس کے متعلق تجربہ نہ ہو چکا ہو اس سے لین دین نہ کرے، روپیہ نہ دے تو اس معنی کو معاملات میں سوء ظن رکھے باقی اعتقاد میں سب سے حسن ظن رکھے کسی کو برانہ سمجھے۔ ۴۔

۱۔ دعوات عبدیت صفحہ ۱۱۹ ج ۱۱۵ الغاء المجازفة ۲۔ بیان القرآن صفحہ ۲۷ ج ۱۱۔ صفحہ ۲۷ ج ۱۱۔

۳۔ انفاص یعنی صفحہ ۶۱۹ ج ۲۔

## قرآن کے معتبر ہونے کی دلیل:

حدیثِ نبوی طعم المبتارین میں حضور ﷺ نے فخر کرنے والوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ زبان سے (فخر کا) کوئی بھی اقرار نہیں کر سکتا۔ پس اگر قرآن وغیرہ سے یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی تو اس سے حدیث پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن وغیرہ سے فخر معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا اعتبار کرنا جائز ہے۔ ۱

## فصل نمبر ۶: ..... عملیات، جادو، جنات، نجومی وغیرہ

### سے حاصل شدہ علم کا شرعی درجہ اور اس کا حکم

سب کا قاعدہ مشترک یہی ہے کہ جس امر کے اثبات کا شرع میں جو طریق ہے جب تک اس طریق سے وہ امر ثابت نہ ہو اس کا کسی طرف منسوب کرنا جائز نہیں اور اپنے محل میں ثابت ہو چکا ہے کہ ان طرق اثبات میں شریعت نے الہام یا خواب یا کشف کو معتبر و حجت قرار نہیں دیا تو ان کی بناء پر کسی کو چور یا مجرم سمجھنا حرام اور سخت معصیت ہے۔

جو ذرائع شریعت کے نزدیک کوئی درجہ بھی نہیں رکھتے ان پر حکم لگانا کس قدر سخت گناہ ہوگا جیسے حضرات کرنا چور کا نام نکالنے کے لئے، یا لوٹا گھمانا یا آج کل جو عمل مسریم شائع ہوا ہے یہ تو بالکل ہی مہمل اور خرافات ہی ہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی سحر یا کسی جن کے واسطے سے یا کسی نجومی یا پنڈت کے واسطے سے کسی چیز کا یقین کر لینا خصوصاً جبکہ اس خبر سے کسی بری شخص کو متہم کر دیا جائے ایسا

شدید حرام ہے کہ کفر کے قریب ہے۔ ایسی ضعیف یا باطل بنیاد پر کسی کو چور سمجھ جانا اور کسی طرح کا شبہ کرنا جائز نہیں، مسلمانوں کے لئے اصل مدارِ علم و عمل ہے تو دیکھ لو جب شریعت نے ان کی دلالت کو حجت نہیں کہا تم کیسے کہتے ہو۔ ۱

### تصرف، سحر، عملیات و تعویذات کا حکم:

تصرف کا شرعی حکم یہ ہے کہ فی نفسہ مباح و جائز ہے پھر غرض و مقصود کے تابع ہے۔ یعنی اگر اس کا استعمال کسی غرض محمود کے لئے کیا جائے تو یہ محمود سمجھا جائے گا جیسے مشائخ صوفیہ کے تصرفات اور اگر کسی مذموم مقصد کے لئے کیا جائے، پھر مذمت و کراہت میں جو درجہ اس کی غرض اور مقصد کا ہوگا اسی کے مطابق اس کی مذمت و کراہت میں کمی بیشی ہوگی۔ ۲

سحر میں اگر کلمات کفریہ ہوں مثلاً جن یا ستارہ وغیرہ سے مدد مانگنا تب تو کفر ہے خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے۔

اور اگر کلمات مفہومِ احمقانی نہ ہوں تو بوجہ احتمال کفر ہونے کے واجب الاحتراز ہے اور یہی تفصیل ہے تمام تعویذ گندوں اور نقش وغیرہ میں۔ ۳

عمل باعتبار اثر کے دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم یہ کہ جس پر عمل کیا جائے وہ مسخر اور مغلوبِ محبت و مغلوبِ عقل ہو جائے۔ ایسا عمل اس مقصود کے لئے جائز نہیں جو شرعاً واجب نہ ہو جیسے نکاح کرنا کسی معین مرد سے کہ شرعاً واجب نہیں اس لئے کہ ایسا عمل جائز نہیں۔ دوسری قسم یہ کہ صرف معمول کو اس مقصود کی طرف توجہ بلا مغلوبیت ہو جائے پھر بصیرت کے ساتھ اپنے لئے مصلحت تجویز کرے ایسا عمل مقصود کے لئے جائز ہے اس حکم میں قرآن و غیر قرآن مشترک ہیں۔ رقیہ جائز تو ہے مگر افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ ۴



## بے خودی یا خواب کا حکم:

خواب یا بے خودی حجت شرعیہ نہیں۔ اس سے نہ غیر ثابت ثابت ہو سکتا ہے نہ راجح مرجوح نہ مرجوح راجح سب احکام اپنے حال پر رہیں گے البتہ اتنا اثر لینا شرع کے موافق ہے کہ جانب احوط کو پہلے سے زیادہ لے لیا جائے۔ ۱۔

خواب پر مسائل میں اعتماد کرنا جائز نہیں۔ ۲۔

خوابوں کا کیا اعتبار اول تو خود خواب ہی کا حجت ہونا ثابت نہیں پھر اس کی صحیح تعبیر کا سمجھ میں آ جانا ضروری نہیں..... خواب کسی حالت کی علت نہیں ایک قسم کی علامت ہے اور علامت کبھی صحیح ہوتی ہے اور کبھی غلط۔ اس لئے جس چیز کی وہ علامت ہے اس کی حقیقت دیکھنی چاہئے۔ ۳۔

## کشف کا حکم:

(بہت سے امور) جو کہ صرف مکشوف و مشہور ہیں جن کے حجت نہ ہونے پر دلائل شرعیہ موجود ہیں اس حالت میں ان تفصیلات کا، یا ان کے معانی کا اعتقاد جازم رکھنا، یا اس کے مقتضی پر عمل کو لازم سمجھنا، یا ان کو مقصود بالذات یا مقصودیت کے لئے شرط سمجھنا جیسا کہ اس وقت مشاہد ہے یقیناً غلو فی الدین ہے۔

کشف اگر شرع سے متصادم نہ ہو تو اس میں دونوں امر محتمل ہیں۔ صحت بھی، غلط بھی خواہ اپنا کشف ہو خواہ اپنے اکابر کا بالخصوص جب کہ وہ کشف ذات و صفات سے متعلق ہو جس میں ظنیات سے حکم کرنا محل خطر و محتمل معصیت ہے۔ ۴۔

۱۔ بوادر النوار صفحہ ۷۷ سے رسالہ عیوالبیراری۔ ۲۔ انفاص یعنی صفحہ ۱۵۳ ج ۱۔ ۳۔ افاضات صفحہ ۲۰۸ و ۲۱۰ ج ۹۔

۴۔ بوادر النوار صفحہ ۷۷ رسالہ البصائر فی الدوائر

## کشف قلوب کی دو قسمیں اور مسائل کشفیہ کا حکم:

مسائل کشفیہ کے لئے یہی غنیمت ہے کہ وہ کسی نص سے متصادم نہ ہوں۔ یعنی کوئی نص ان کی نافی نہ ہو۔ باقی اس کی کوشش کرنا کہ نص کو ان کا مثبت بنایا جائے اس میں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر نص اس کی محتمل ہو تو درجہ احتمال تک اس کا رکھنا غلو تو نہیں مگر تکلف ہے اور اس کو درجہ احتمال سے بڑھا دینا غلو ہے۔ اگر وہ محتمل بھی نہ ہو تو اس کا دعویٰ کرنا احتمالاً یا جزاً صریحاً تحریف ہے نص کی۔ البتہ اگر وہ دعویٰ بطور تفسیر و تاویل کے نہ ہو محض بطور علم اعتبار کے ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ حکم اگر کسی اور نص سے ثابت ہو تو وہ اعتبار داخل حدود ہے اور اگر وہ کسی اور نص سے ثابت نہ ہو تو وہ بھی تکلف ہے۔ ۱۔  
تمتہ:..... کشف قلوب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بالقصد جس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر اس کے خطرے پر اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جائز نہیں تجسس ہے کیونکہ تجسس اس کو کہتے ہیں کہ جو باتیں کوئی چھپانا چاہتا ہو اس کو دریافت کرے۔ دوسری صورت یہ کہ بلا قصد کسی کے مافی الضمیر کا انکشاف ہو جائے اور یہ کرامت ہے۔ ۲۔

## فراست کا حکم:

اتقوا فراسة المؤمن، اس حدیث میں اصل ہے فراست کی اور وہ ایک قسم کا کشف ہے اور وہ بھی مثل کشف کے حجت شرعیہ نہیں۔ ۳۔

## علم قیافہ کی حقیقت اور اس کا حکم:

فرمایا ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے علم قیافہ کا حاصل بیان کیا تھا کہ باطنی نقص پر حق تعالیٰ کسی ظاہری ہیئت کو علامت بنا دیتے ہیں تاکہ ایسے شخص سے احتیاط ممکن ہو یہ حاصل ہے علم قیافہ کا۔ مگر ایسے امور و علامات کوئی حجت شرعیہ نہیں۔ ۴۔

۱۔ اواد صفحہ ۸۴۔ ۲۔ رسالہ الحاق۔ ۳۔ دعوات عبدیت صفحہ ۱۳۶۔ ۴۔ التشریف صفحہ ۸۷۔ ۵۔ بیاباد۔

## الہام اور کشف کا حکم:

مکاشفہ تو حجت کے کسی درجہ میں بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اگر مکاشفہ شرع کے خلاف نہ ہو تو وہ خود صاحب کشف یا جو صاحب کشف کے اتباع کے التزام کے ہو اس کو عمل کر لینا جائز ہے اور کسی قدر مؤکد ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اگر عمل نہ کرے گا تو ضرر دنیوی میں مبتلا ہوگا نہ کہ ضرر اخروی میں۔ ۱

فرمایا کہ الہام کی مخالفت سے بھی دنیا میں مواخذہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کوئی اور آفت آجائے مگر آخرت میں نہیں ہوتا، کیونکہ الہام حجت شرعیہ نہیں اس لئے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت میں مواخذہ ہو اور وحی کی مخالفت سے آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ ۲

## حدیث ضعیف کا حکم:

حدیث ضعیف حسب تصریح اہل علم کسی حکم شرعی کے لئے مثبت نہیں ہو سکتی۔ ۳

## ادراک کا حکم:

شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہمارے زمانہ میں ایسا صاحب فراست ہے کہ صرف صورت دیکھ کر نام بتلا دیتا ہے۔ مجھے بھی حق تعالیٰ نے اتنی فہم عطا فرمائی ہے کہ طرز گفتگو سے مجھے انداز طبیعت کا معلوم ہو جاتا ہے۔ البتہ ایسا ادراک بدون دلیل شرعی کے حجت نہیں۔ ۴

## شرائع من قبلنا کا حکم:

اگر یہ شبہ ہو کہ شرائع من قبلنا ہمارے اوپر حجت نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”شرائع

۱۔ حسن العزیز صفحہ ۵۲۔ ۲۔ ملحوظات صفحہ ۱۸۱۔ ۳۔ امداد الفتاویٰ صفحہ ۲۲۶ ج ۳۔ ۴۔ بدائع صفحہ ۲۵۱۔

من قبلنا“ کو اگر ذکر فرما کر ان پر نکیر نہ فرمائی گئی ہو تو ہمارے لئے بھی حجت ہیں۔ ۱۔  
اس قاعدہ اصولیہ میں ایک قید مشہور ہے کہ نقل کر کے نکیر نہ کیا گیا ہو۔ اس میں  
اتنی تنبیہ ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی مقام پر نکیر ہو بلکہ کسی نص میں بھی نکیر ہونا  
کافی ہے۔ ورنہ یوسف علیہ السلام کی برأت کے قصہ میں جو اس شاہد کا قول منقول ہے  
ان کان قمیصہ قد من قبل الخ اور اس مقام پر نکیر نہیں ہے تو لازم آتا ہے کہ  
ہماری شریعت میں بھی حجت ہو۔ اس سے ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جو جحدہ ملائکہ و  
اخوان یوسف علیہ السلام سے جواز جحدہ تحیہ پر استدلال کرتے ہیں۔ وجہ جواب ظاہر  
ہے کہ دوسری نصوص میں نکیر موجود ہے۔ وفي المقام تفریعان لطیفان یتعلقان  
بقصۃ موسیٰ علیہ السلام مبنیان علی کون ما قص اللہ ورسولہ علینا  
من نکیر حجة لنا احدثهما اباحة مال الحربی برضاه ولو بعقد فاسد  
فان استیجار الامر لارضاع الابن عقد فاسد وهو مذهب الحنفیة  
الخ ۲

شرائع من قبلنا کی طرح حدیث تقریری بھی حجت ہے:

ان تفریعات کی اصل بناء حدیث تقریری کی حجت ہے اور حق تعالیٰ کا کسی کے  
قول یا فعل کو بلا نکیر نقل فرمانا سکوت سے بھی ابغ ہے۔ پس اس کی حجت اور بھی ہے۔  
میرا پہلے یہ خیال تھا کہ ”حجت شرائع من قبلنا“ بھی اس معنی پر مبنی ہے، مگر کتب اصول  
کی مراجعت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ ”حجت شرائع من قبلنا“ مسئلہ مستقلہ ہے اور اس کی  
بنیاد دوسری ہے۔ اور حدیث تقریری کی بنیاد دوسری ہے جو کہ غیر شرائع کو بھی عام ہے۔ ۳۔

## الباب الثالث

### اقسام احکام

#### با اعتبار ثبوت کے احکام کی تین قسمیں

احکام با اعتبار ثبوت کے تین قسم کے ہیں۔ منصوص، اجتہادی، ذوقی، اجتہادی میں اجتہاد سے مراد وہ ہے جس کو فقہاء اجتہاد کہتے ہیں۔ اور ایسے اجتہاد سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ واقع میں نص ہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اجتہاد سے صرف ظاہر ہو جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے القیاس مظہر لامشیت۔

#### احکام ذوقیہ اور اجتہادیہ کا فرق اور دونوں کا حکم:

اور ذوقی وہ احکام ہیں جو نص کا مدلول نہیں نہ بلا واسطہ جو منصوص کی شان ہوتی ہے نہ بواسطہ جیسے اجتہادیات کی شان ہوتی ہے بلکہ وہ احکام محض وجدانی ہوتے ہیں اور ذوق و اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ احکام اجتہادیہ تو مدلول نص ہیں اور یہ (ذوقیہ) مدلول نص نہیں۔ اسی واسطے مجتہدین سے ایسے احکام منقول نہیں نہ کسی پر ان احکام کا ماننا واجب ہے۔ محض المل ذوق کا وجدان ان احکام کا مبنی ہوتا ہے۔ البتہ ان میں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اشارات سے ان کی تائید ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کا قائل ہونا جائز ہو جاتا ہے اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کا رد واجب ہے اور اگر کتاب و سنت سے تائید ہوں نہ اس کے خلاف ہوں تو اس میں جائزین میں گنجائش ہے۔

اور اجتہادیات جزء فقہ ہیں اور ذوقیات جزء تصوف۔ ۱

## احکام اجتہادیہ و ذوقیہ کا دار و مدار:

احکام اجتہادیہ کا مبنی علت ہوتی ہے جس سے حکم کا تعدیہ کیا جاتا ہے اور ذوقیات کا مبنی محض حکمت ہے اور وہ بھی غیر منصوص جس سے حکم متعدی نہیں ہوتا نہ حکم کا وجود و عدم اس کے ساتھ دائر ہوتا ہے اور یہ ”عدم دوران“ حکمت منصوصہ میں بھی عام ہے۔ جیسے طواف میں رمل کہ اس کی بنا ایک حکمت تھی مگر وہ حکمت کا مدار نہیں مگر تمام مسائل تصوف کو اس شان کا نہ سمجھا جائے۔ ان میں بعض اجتہادی اور بعض منصوص بھی ہیں۔ ۱۔

## احکام کی دوسری تقسیم:

ایک دوسرے اعتبار سے احکام کی اور دو قسمیں ہیں ”مقاصد“ اور ”مقدمات“ یہ احکام ذوقیہ صرف مقدمات ہوتے ہیں، مقاصد نہیں ہوتے۔ مقاصد صرف منصوص ہوتے ہیں یا اجتہادی، احکام منصوصہ و اجتہادیہ شریعت ہے۔ احکام ذوقیہ شریعت نہیں البتہ ”اسرار شریعت“ ان کو کہا جاسکتا ہے اور یہ سب مبادی ماہر قواعد شرعیہ کے نزدیک ظاہر ہیں۔ ۲۔

## ترتیب احکام کے اعتبار سے احکام شرعیہ کی دو قسمیں اصلی و عارضی:

احکام شرعیہ دو قسم کے ہیں۔ ایک اصلی دوسرے عارضی (یعنی) احکام کبھی شے کی ذات پر نظر کر کے مرتب ہوتے ہیں اور کبھی عوارض پر نظر کر کے، اور ان دونوں قسم کے احکام باہم مختلف بھی ہو جاتے ہیں اور چونکہ حکم اکثر کا ہوتا ہے لہذا اگر کوئی شخص شاذ و نادر ہو اس کا اعتبار نہ ہو گا ان عوارض پر نظر کر کے منع کیا جائے گا۔ ۳۔  
نقلی و عقلی مسلمہ مسئلہ ہے کہ احکام بعض اصلی ہوتے ہیں بعض عارضی، مثلاً

اسلحہ اور گولہ بارود کی تجارت اصل وضع کے اعتبار سے مثل دیگر تجارت کے بلا کسی قید کے جائز ہونا چاہئے اور یہ حکم اصلی ہے۔

لیکن اس کے نتائج مضمر پر نظر کر کے اس میں لائسنس کی قید قانوناً لگا دی گئی۔

یافوا کہ (پھلوں) کی تجارت کی اصل یہ ہے کہ ہر حال اور ہر وقت میں جائز ہو مگر وبا کے زمانے میں طبعی اصول پر تجارت کو منع کر دیا جاتا ہے اور ایسے عوارض اگر ممتد ہوں تو حکم بھی ممتد ہوتا ہے۔ مثلاً اسلحہ کی آزاد تجارت میں ہمیشہ مضرت کا اندیشہ تھا وہاں ممانعت دوامی ہوگئی، فوا کہ کی مضرت موسم کے ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے وہاں ممانعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ۱۔

### قاعدہ مذکورہ کی دلیل:

نظیر اس کی مسجد الحرام ہے جب تک اس پر مشرکین مکہ مسلط رہے حضور اقدس ﷺ وہاں نماز بھی، بیت اللہ کا طواف بھی فرماتے رہے۔ اسی درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور ﷺ مدینہ منورہ سے عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے آنے نہیں دیا، پھر اس پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال تین روز کے لئے تشریف لائیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں۔ آپ ﷺ نے اس صلح کو قبول فرمایا اور وقت محدود تک قیام فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب آپ کا تسلط نہ تھا۔ عذر کی حالت میں آپ نے اس حکم عارضی پر عمل فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ مسلط فرمادیا اس وقت اصلی حکم پر عمل فرمایا۔ ۲۔

### مسائل کی دو قسمیں قطعیه و ظنیہ!

مسائل دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کی ایک شق یقیناً حق اور دوسری باطل ہے۔ خواہ سماعاً

خواہ عقلاً یہ مسائل قطعیہ کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم جس میں دونوں جانب حق و ثواب کا احتمال ہو یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں۔ مسائل کلامیہ اکثر اول سے ہیں اور بعض ثانی سے اور مسائل فقیہہ اکثر قسم ثانی سے اور بعض اول سے۔

## احکام قطعیہ و ظنیہ واجتہاد یہ کی تفصیل اور ان کے احکام:

مسائل بعض قطعی ہوتے ہیں۔ ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بعض اجتہادی و ظنی ہوتے ہیں، ان میں سلف سے خلف تک شاگرد نے استاد کے ساتھ، مرید نے پیر کے ساتھ قبیل جماعت نے کثیر جماعت کے ساتھ واحد نے متعدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور علماء امت نے اس سے نکیر نہیں کی اور نہ ایک نے دوسرے کو ضال اور عاصی کہا نہ کسی نے دوسرے کو اپنے ساتھ متفق ہونے پر مجبور کیا۔

مسائل اجتہاد یہ ظنیہ میں اختلاف دو طرح سے ہوا ہے، ایک دلائل کے اختلاف سے جیسے حنفی، شافعی میں قرأت فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں۔

دوسرے واقعات یا عوارض کے اختلاف سے جیسے امام صاحب اور صاحبین میں نکاح صابنات کے مسئلہ میں الخ۔

مسائل اجتہاد یہ میں کسی ایک شق کو صواب سمجھنا اور دوسری شق کے اختیار کرنے پر ملامت کرنا مصداق ہے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ كَمَا ۚ یعنی جس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔

دلائل سمعیہ و نقلیہ کی ضرورت کہاں واقع ہوتی ہے:

(کوئی بھی عمل) اگر صرف فن میں مقصود ہے دین میں مقصود نہیں تو اس دلیل صحیح کا سمعی یعنی حدیث وغیرہ ہونا ضروری نہیں دوسری دلیل بھی اس کے لئے کافی ہے بشرطیکہ وہ شرعاً باطل نہ ہو جیسے جس دم کہ مقصود فی الدین نہیں تو گویہ حدیث وغیرہ سے



ثابت نہیں مگر ایسے قواعد ظنیہ سے ثابت ہے جن پر شریعت نے تکلیف نہیں کیا اور اگر وہ مقصود دین میں بھی ہو تو دلیل صحیح کا سمعی ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے اعمال مامور بہاؤ منہی عنہا کی مطلوبیت و متروکیت۔

عقائد قطعہ و ظنیہ کے لئے کیسے دلائل کی ضرورت ہے:

۱..... عقائد قطعہ کے لئے ضرورت ہے دلیل قطعی کی جو ثبوتاً بھی قطعی ہو اور دلالتاً بھی قطعی ہو۔

۲..... عقائد ظنیہ کے لئے دلیل ظنی کافی ہے بشرطیکہ اپنے مافوق کے ساتھ معارض نہ ہو ورنہ دلیل مافوق ماخوذ ہوگی اور یہ دلیل متروک ہوگی اور اگر مماثل کے ساتھ معارض ہوگی تو دلائل مابعدہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر دلائل مابعدہ بھی متعارض ہوں گے، دونوں شقوں کے قائل ہونے کی گنجائش ہوگی۔

۳..... عقائد قطعہ میں تو کسی غیر محصوم کا کلام حجت نہ ہوگا اور عقائد ظنیہ میں غیر مجتہد کا کلام حجت نہ ہوگا بلکہ خلاف دلیل ہونے کی صورت میں وہ غیر مجتہد اگر مقبول ہے تو اس کے کلام میں تاویل کی جائے گی ورنہ رد کر دیا جائے گا۔

وجوب کی دو قسمیں واجب بالذات اور واجب بالغیر:

کسی شے کا ضروری اور واجب ہونا دو طرح پر ہوتا ہے ایک یہ کہ قرآن و حدیث میں خصوصیت کے ساتھ کسی امر کی تاکید ہو جیسے نماز، روزہ وغیرہ ایسی ضرورت کو وجوب بالذات کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس امر کی خود تاکید تو نہیں آئی مگر جن امور کی قرآن و حدیث میں تاکید آئی ہے ان امور پر عمل کرنا بدو ان اس امر کے عادتاً ممکن نہ ہو اس لئے اس امر کو بھی ضروری کہا جائے گا اور یہی معنی ہیں علماء کے اس قول

۱ تجدید تصوف منقول از تھانوی صفحہ ۳۶۶-۳۷۲ اس کے علاوہ دلائل۔ ۲ بوادر النوار در رسالہ شق الجیب

عن حق الغیب صفحہ ۴۳،

کے مقدمہ واجب کا واجب ہے۔

## دلیل اور مثال:

جیسے قرآن و حدیث کا جمع کر کے لکھنا کہ شرع میں اس کی کہیں بھی تاکید نہیں آئی بلکہ اس حدیث میں خود کتابت ہی کے واجب نہ ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا أُمَّةٌ لَا نَكْتُبُ الْخ (متفق علیہ) اور جب مطلق کتابت واجب نہیں تو کتابت خاصہ کیسے واجب ہوگی۔ لیکن ان کا محفوظ رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا ان امور پر تاکید آئی ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہے کہ بدون کتابت کے محفوظ رہنا عادتاً ممکن نہ تھا اس لئے قرآن و حدیث کے لکھنے کو ضروری سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس کے ضروری ہونے پر تمام امت کا دلالت اتفاق چلا آیا ہے۔ ایسی ضرورت کو واجب بالغیر کہتے ہیں۔

تتمہ:

و جب ترک کے لئے صرف قبح بالذات شرط نہیں بلکہ قبح بالغیر کافی ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے بہت مواقع میں بعض مباحات کو سد الذرائع تاکید سے روکا ہے۔

## تفریعات:

① حکم اصلی یہ تھا کہ مساجد ہر طرح آزاد ہیں، ان میں کسی وقت کسی کو نہ نماز پڑھنے سے ممانعت کی جائے نہ آنے جانے سے روکا جائے الا المضاحۃ المساجد اور یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمان کی شورش (اور فتنہ کے) بغیر اس پر قادر ہوں۔

اور حکم عارضی یہ ہے کہ جس صورت پر صلح کی جاتی ہے اس پر رضامند ہو جائیں اور یہ حکم اس حالت میں ہے جب مسلمان حکم اصلی پر قادر نہ ہوں۔

۱۷ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ تاجر کا فتح متاع (سامان کھولتے وقت) ترویج سلسلہ (سامان) یا ترغیب مشتری کی غرض سے درود شریف پڑھنا، یا حارس (پہرہ دار) کا ایقظ نامین کی غرض سے تہلیل کا جہر کرنا ان سب عوارض کی وجہ سے ممانعت کا حکم کیا جائے گا۔

۱۸ بعض اوقات قرآن شریف کا پڑھنا بھی ممنوع ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص قرآن شریف یاد کرنا چاہتا ہے جو کہ مستحب ہے مگر بیوی بچوں کے لئے گذر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کے قرآن کے یاد کرنے میں وقت صرف کرنا حرام ہے کیونکہ واجب میں خلل پڑتا ہے۔ فافہم۔

۱۹ جس کی سنت فرض سے مانع ہو جائے تو اس کو سنت سے روکا جائے گا۔

واجب کا مقدمہ واجب اور حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے:

قاعدہ مقررہ ہے کہ جو امر جائز کسی امر مستحسن یا واجب کا مقدمہ و موقوف علیہ ہو وہ بھی مستحسن یا واجب ہو جاتا ہے اسی بنا پر ہمارے علماء متکلمین نے یونانی فلسفہ کو حاصل کیا اور علم کلام بطرز معقول مدون فرمایا۔

دلیل مع مثال:

اور یہ قاعدہ ہے کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے ہر چند کہ بدیہی اور سب اہل ملل و اہل عقل کے مسلمات سے ہے محتاج اثبات نہیں مگر تمبراً ایک حدیث سے تائید بھی کی جاتی ہے۔

عَنْ عَقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ۚ

ظاہر ہے کہ تیر اندازی کوئی عبادت مقصود فی الدین نہیں چونکہ بوقت حاجت ایک واجب یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کا مقدمہ ہے اس لئے اس کے ترک پر وعید فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

حکم واقعات اکثریہ پر عائد ہوتا ہے شذوذ کا اعتبار نہیں:

حکم واقعات اکثریہ پر لگایا جاتا ہے اور جو بات شاذ و نادر ہوا کرتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ شدت بھوک میں مردار تو حلال ہو گیا مگر شدت شہوۃ میں زنا کو حلال نہیں کیا گیا کیونکہ شدۃ شہوۃ کی وجہ سے موت کا واقع ہو جانا عادت کے خلاف ہے بخلاف شدۃ جوع (بھوک) کے کہ اس سے ہلاک ہو جانا اکثر ہے۔ لہذا نظر بد سے بچنا مطلقاً بھی ضروری ہے۔ اگرچہ نظر بد سے روکنے سے فرضاً ہلاکت ہی کا اندیشہ کیوں نہ ہو۔ لانه شاذ بل الاشد۔ ۳

احکام میں اعتبار اکثر کا ہوتا ہے

للاكثر حکم الكل:

یہ قاعدہ ہے کہ انتظامی احکام میں جو مفاسد سے بچانے کے لئے ہیں اعتبار اکثر ہی کا ہوتا ہے اور اکثر کی حالت پر نظر کر کے حکم عام دیا جاتا ہے اور یہی معنی ہیں فقہاء کے اس قول کے کہ جس امر میں عوام کو ایہام (فساد کا) اندیشہ ہو وہ خواص کے حق میں بھی مکروہ ہوتا ہے اور اس قاعدہ کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ

احادیث میں یہودیوں سے سنی ہوئی توراہ کی باتیں لکھنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ ان مضامین کے لکھنے میں اکثر لوگوں کی خرابی کا اندیشہ تھا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے تمام لوگوں کو ممانعت فرمادی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہیم اور متصلب فی الدین شخص کو بھی اجازت نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امر میں فقہ عام ہو اس کی اجازت خواص کو بھی نہیں دی جاتی بشرطیکہ وہ امر ضروری فی الدین نہ ہو۔

(۲) عن شقیق قال کان عبداللہ بن مسعود یدکر الناس فی کل خمیس فقال الرجل یا ابا عبد الرحمن لودت انک ذکرتنا فی کل یوم السخ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ فرمایا کرتے تھے تو ایک شخص نے عرض کیا یا ابو عبد الرحمن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ روزانہ ہمیں وعظ فرمائیں۔ تو حضرت ابن مسعود نے جواب دیا کہ لوگ اکٹا جائیں گے اس لئے میں ایسا نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ سننے والوں میں سب تو اکٹانے والے نہ تھے چنانچہ خود سائل کے شوق کلام سے معلوم ہوتا ہے لیکن اکثر طبائع کی حالت کا اعتبار کر کے آپ نے سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا اور یہی عادت رسول اللہ ﷺ کے بیان کی تھی۔ پس رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے عمل سے اس قاعدہ کا ثبوت ہو گیا۔ ۳

احکام معنون سے متعلق ہوتے ہیں نہ کہ عنوان سے:

حکم شرعی کا محل اور متعلق ہمیشہ معنون ہوتا ہے کہ نہ عنوان مثلاً کوئی شخص مقصوب زمین میں مسجد بنالے اور مالک زمین قاضی کے اجلاس میں اس کا مقصوب ہونا ثابت کر دے اور قاضی غاصب کو اس مسجد کے انہدام (گرانے) اور زمین کی واپسی کا حکم دے تو قاضی پر یہ اعتراض جائز نہ ہوگا کہ اس نے مسجد منہدم کرادی (کیونکہ) یہ محض نام کی مسجد ہے واقع میں وہ مسجد ہی نہیں۔

احکام کا دار و مدار آثار پر ہوتا ہے نہ کہ محض اسباب پر:

لوگ اسباب کو دیکھتے ہیں (اصل) اسباب کا دیکھنا نہیں بلکہ آثار کا دیکھنا ہے جیسے اگر کوئی مجلد ضخیم قرآن شریف (کسی کا ہلاک کر دے) کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ (اسی طرح سمجھئے کہ) اگر قرآن شریف (یا نظم وغیرہ) سن کر نفسیاتی کیفیت پیدا ہو وہ محمود نہ ہوگی مثلاً کسی امر سے قرآن شریف سنا اس کی آواز یا صورت سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اسباب (یعنی قرآن شریف پڑھنے کو) نہ دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت یقیناً نفسیاتی ہوگی۔ اس صورت میں قرآن یا نظم سننا ناجائز ہوگا۔!

کسی امر کا جائز یا ناجائز ہونا محض اس کے نافع ہونے پر نہیں:

① میں نے کہا خمر (شراب) بھی تو نافع ہے میسر (جوا) بھی نافع ہے بلکہ ان کا نافع ہونا نص سے ثابت ہے۔ اگر نافع ہونے پر مدار ہے تو ان چیزوں میں بھی کوئی جرم نہ ہونا چاہئے۔

② جس عمل نافع میں نہ دنیوی ضرر ہو جس سے شرعاً معذور سمجھا جاتا ہے نہ دینی ضرر اس میں تقاعد کرنا (حصہ لینا) خلاف حیت ہے جیسے چندہ۔

جائز کے دو درجہ:

جائز کے دو درجہ ہیں۔ ایک محض مباح میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی نہیں جیسے معالجہ امراض کا اور اس کا ترک۔

دوسرا درجہ جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی بھی ہے اور معیار اس کا یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ترغیب شریعت میں آئی ہو جیسے نکاح کہ اس کی تائید وارد ہے

اور اس کے ترک بلا عذر پر وعید بھی ہے۔ یہ صاف دلیل ہے اس کے دین ہونے کی اسی لئے فقہاء نے جو نکاح کے اقسام اور ان کے احکام لکھے ہیں ان میں کوئی درجہ مباح کا نہیں ہاں عارض کے سبب مکروہ ہو جاتا ہے مگر فی نفسہ طاعت ہی ہے پس نکاح کا کوئی نیا قانون بنانا مداخلت فی الدین اور معالجات کا قانون بنانا مداخلت فی الدین نہیں ہے۔

### اصل امر میں وجوب ہے:

اصل امر میں وجوب ہے اور کسی فعل کا وجوب اس کی ضد کی حرمت کو مستلزم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اصولیہ ہے اور عقل بھی صاف اس کی شہادت دیتی ہے۔ مثلاً اعفاء لہجیہ اور احقاء شوارب کا امر اس کے خلاف کی حرمت کو مستلزم ہے۔

صیغہ امر اصل میں موضوع ہے وجوب کے لئے اور اگرچہ مطلق امر کے واسطے فوری ضروری نہیں مگر متبادر ضرور ہے۔ ہاں اگر وہ فعل یقینی طور پر تدریجی ہو تو وہاں فوراً متبادر نہیں ہوتا ورنہ عموماً امر سے متبادر یہی ہوا ہے کہ یہ کام ابھی فوراً کیا جائے پس فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ سے صحابہ یہ سمجھے کہ ہم کو اسی وقت کامل تقویٰ اختیار کرنا چاہئے اس لئے گھبرا گئے تو پھر یہ حکم نازل ہوا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . کہ جتنا مرتبہ تقویٰ کا اس وقت ہو سکے اتنا اس وقت اختیار کر لو پھر بتدریج دوسرے مراتب میں بقدر استطاعت ترقی کرتے رہو۔ پس یہ آیت پہلی کے لئے محققین کے نزدیک مانع نہیں بلکہ بیان ہے۔

### فی زمانہ اباحت اصل ہے یا حرمت، حضرت کی رائے:

اباحت کے لئے پہلے تو یہ فتویٰ تھا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک حرمت ثابت نہ ہو اب تو وہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ کہنا چاہئے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک کہ اباحت ثابت نہ ہو۔ یہ فتویٰ دینا چاہئے تب کہیں جا کر لوگ حرام سے





## فصل: ..... احکام کے مکلف بنانے کا بیان

عقل کا ہر درجہ تکلیف کے لئے کافی نہیں:

میری رائے تو یہ ہے کہ حیوانات میں روح کے علاوہ عقل بھی ہوتی ہے کیونکہ بعض حیوانات کے افعال اسی پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ذی عقل مانا جائے لیکن اس سے انکا مکلف ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ عقل کا ہر درجہ تکلیف کے لئے کافی نہیں۔ دیکھئے صبی مراہق (یعنی قریب البلوغ بچہ) میں بھی عقل کا ایک درجہ موجود ہے مگر مراہق مکلف نہیں تو اگر ایسا ہی درجہ حیوانات میں تسلیم کر لیا جائے تو اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا اور یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعض مجذوبین کے متعلق جن میں بظاہر کچھ عقل بھی معلوم ہوتی ہے شبہ نہ کیا جائے کہ عقل کے ساتھ ان سے افعال و اقوال غیر مشروع کا صدور کیونکر ہوتا ہے۔ تم ان کو کافر نہ کہو کیونکہ ممکن ہے وہ بچہ کے مثل ہوں کہ باوجود کسی قدر عاقل ہونے کے مکلف نہ ہوں بلکہ حیوانات سے تجاوز کر کے ممکن ہے کہ نباتات میں بھی عقل کا ایک درجہ موجود ہو۔

آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کل بعض لوگ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ نباتات میں روح ہے اور قدماہ فلاسفہ میں بھی بعض اسی کے قائل ہیں سو ہم کو اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ جمادات میں بھی عقل و روح موجود ہو اور ان کی عقل نباتات سے بھی کم ہو اسی لئے جمادات کا نطق ممکن ہے اور جن احادیث میں حجر و شجر کی شہادت کا ذکر ہے وہ اس کی موسید ہیں۔

مکلف ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں:

فرمایا لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کامل العقل، دوسرے ناقص العقل، تیسرے فاقد العقل۔ پہلا شخص مکلف کامل ہے۔ دوسرا مکلف ناقص ہے اور اسی کے



لکھوالے گا تو اس کو یہ خطاب کیا جائے گا کہ فلاں کو رس سیکھو۔ ۱

ترک فروع پر کفار کو عذاب ہوگا یا نہیں:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْآيَةَ  
کفار کے بارے میں ہے اور جن اعمال پر وارد ہے ان میں بعض فروعی بھی ہیں ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف بالفروع ہوں حالانکہ فقہاء اصولیین کے نزدیک کفار مکلف بالفروع نہیں اس لئے انہوں نے تصریح کی ہے کہ اگر کافر اسلام لانے کے قبل نماز پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح اسلام لانے کے بعد ان نمازوں کی قضاء واجب نہیں اس سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا۔

وہ اس طرح کہ کفار کو جو عذاب ہوگا وہ اصل میں نفس کفر پر ہوگا۔ بخلاف مسلمان کے کہ اس کو جو سزا ہوگی ہو ترک فروع پر ہوگی ہاں کافر کی سزا میں بوجہ ترک فروع کے اضافہ ہو جائے گا اور عقوبت بڑھ جائے گی یہ نہیں کہ نفس فروع پر سزا ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو باغی ہوں جو حکومت کی اطاعت نہیں کرتے مگر ان میں ایک تو وہ ہے جو بغاوت بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملک میں شورش بھی کرتا ہے اور دوسرا باغی تو ہے مگر نافرمانی اس کی ذات ہی تک ہے شورش نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ بغاوت پر سزا دونوں کو ہوگی مگر جو بغاوت کے ساتھ شورش بھی کرتا ہے اس کی سزا میں بہ نسبت شورش نہ کرنے والے کے اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں اصل سزا تو بغاوت پر ہے مگر بوجہ شورش کے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کافر تارک فروع کی مثال شورش کرنے والے باغی کی سی ہے کہ کفر تو کرتا ہی ہے لیکن باوجود کفر کے فروع کو بھی نہیں بجالاتا تو اس کو اصل سزا تو کفر پر ہوگی مگر ترک فروع کی وجہ سے سزا میں زیادتی

ہو جائے گی۔

اور اس کا فرکی مثال جو بعض فروع کو ادا کرتا ہے جو مشروط بالا ایمان نہیں ہیں جیسے عدل، تواضع، سخاوت اس باغی کی سی ہے جو شورش نہیں کرتا۔ اس کی اصل سزا کفر پر ہوگی ترک فروع سے اضافہ اور زیادت نہ ہوگی۔ اب شبہ کفار کے مکلف ہونے کا جاتا رہا۔

اور مسلمان کی مثال اس مجرم کی سی ہے جو باغی نہیں ہے اس کو صرف ترک فروع پر سزا ہوگی بغاوت کی سزا اس کو نہ ہوگی کیونکہ وہ باغی نہیں ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کو فروع کے مکلف نہیں مگر پھر بھی ترک فروع پر عقاب ہوگا تو تقویت ہی کے لئے سہی۔ تو مسلمان جو کہ فروع کے مکلف ہیں وہ اس آیت سے زیادہ مورد وعید ثابت ہوں گے کیونکہ جب غیر مکلف بالفروع کو بھی ان فروع کی ترک سے ضرر ہوتا ہے تو جو ان فروع کا مکلف ہے اس کو ان کے ترک سے کیوں ضرر نہ ہوگا۔ (دعوات عبدیت صفحہ ۱۸۸ ج ۷۔ الاطمینان بالذنیاء۔)

کفار فروع میں نواہی کے مکلف ہیں یا نہیں:

کفار کا بلا وضو قرآن شریف کو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ فرمایا ظاہر اتو کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا کیونکہ کفار فروع کے مکلف نہیں ہیں گو ادب کے خلاف ہے۔<sup>۲</sup>  
جو چیز اپنے لئے محرم الاستعمال ہو وہی استعمال دوسرے کو بتلانا بھی جائز نہیں (حتیٰ کہ کفار کو بھی) بالخصوص اس قول پر کہ بعض فقہاء قائل ہوئے ہیں کہ کفار فروع میں نواہی کے مکلف ہیں اوامر کے نہیں۔<sup>۳</sup>

۱۔ ان الدین لایرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا واطمأنوا بہا الایة

۲۔ حسن العزیز صفحہ ۲۷۵ ج ۴۔ ۳۔ امدادی الفتاویٰ صفحہ ۲۰۵ ج ۴

## فصل نمبر ۳: ..... توکل و اسباب کے اقسام و احکام

توکل کی دو قسمیں:

توکل کی دو قسمیں ہیں۔ علماً و عملاً نمبر ① علماً تو یہ ہے کہ ہر امر میں متصرف حقیقی و مدبر حقیقی حق جل و علا شانہ کو سمجھے اور اپنے کو ہر امر میں ان کا محتاج اعتقاد کرے یہ توکل تو ہر امر میں عموماً فرض اور جز عقائد اسلامیہ ہے۔  
قسم دوم ② توکل عملاً اس کی حقیقت ترک اسباب ہے۔

اسباب کی دو قسمیں:

اسباب کی دو قسمیں ہیں اسباب دینیہ اور اسباب دنیویہ۔ اسباب دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو ان کا ترک کرنا محمود نہیں بلکہ کہیں گناہ اور کہیں خسران و حرمان ہے اور شرعیہ توکل نہیں۔ اگر لفظ یہ توکل کہا جائے تو یہ توکل مذموم ہے۔

اور اسباب دنیویہ جس سے دنیا کا نفع حاصل ہو اس نفع کی دو قسمیں ہیں۔ حلال یا حرام۔ اگر حرام ہو اس کے اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض ہے۔ اور اگر حلال ہو اس کی تین قسمیں ہیں۔ ① یقینی۔ ② ظنی۔ ③ اور وہی۔ اسباب وہمہ جن کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں جس کو طول اہل کہتے ہیں ان کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض و واجب ہے۔

اور اسباب یقینہ:

جن پر وہ نفع عادتاً ضرور مرتب ہو جائے۔ جیسے کھانے کے بعد آسودگی ہو جانا،

پانی پینے کے بعد یہ اس کم ہو جانا، اس کا ترک کرنا جائز نہیں اور نہ یہ شرعاً توکل ہے اور لغتاً توکل کہا جائے تو یہ توکل ناجائز ہے۔

### اور اسباب ظنیہ:

جن پر غالباً نفع مرتب ہو جائے مگر بارہا تخلف بھی ہو جاتا ہے جیسے علاج کے بعد صحت ہو جانا، یا نوکری اور مزدوری کے بعد رزق ملنا، ان اسباب کا ترک کرنا جس کو عرف اہل طریقت میں اکثر توکل کہتے ہیں اس کے حکم میں تفصیل ہے وہ یہ کہ ضعیف انفس کے لئے تو جائز نہیں اور قوی انفس کے لئے جائز ہے، بالخصوص جو شخص قوی انفس بھی ہو اور خدمت دین میں بھی مشغول ہو اس کے لئے مستحب بلکہ کسی قدر اس سے بھی موکد ہے۔

### تدبیر کے اقسام و احکام:

تدبیر میں دو مرتبہ ہیں ایک اس کا نافع ہونا، دوسرا اس کا جائز ہونا۔ سونا نفعیت میں تو یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ تقدیر کے موافق ہوگی تو نافع ہوگی وگرنہ نہیں۔

اور اس کے جواز میں یہ تفصیل ہے کہ اس میں دو مرتبہ ہیں۔ ایک مرتبہ اعتقاد یعنی اسباب کو مثل منکرین قدر کے مستقل بالتاثر سمجھا جائے سو یہ اعتقاد شرعاً حرام و باطل ہے۔ البتہ تاثر غیر مستقل کا اعتقاد رکھنا یہ مسلک اہل حق کا ہے۔

دوسرا مرتبہ عمل کا یعنی مقاصد کے لئے اسباب اختیار کئے جائیں سو اس کا حکم یہ ہے کہ اس مقصد کو دیکھنا چاہئے کیسا ہے۔ سو اس میں تین احتمال ہیں یا وہ مقصد دینی ہے یا دنیاوی مباح ہے، یا معصیت ہے۔ اگر معصیت ہے تو اس کے لئے اسباب کا اختیار کرنا مطلقاً ناجائز ہے اور اگر وہ دین ہے تو دیکھنا چاہئے کہ وہ امر دین واجب ہے یا مستحب ہے، اگر واجب ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا مستحب ہے اور اگر وہ

دنیاوی مباح ہے تو دیکھنا چاہئے کہ وہ دنیاوی مباح ضروری ہے یا غیر ضروری۔ اگر ضروری ہے تو اس کے اسباب کو دیکھنا چاہئے کہ ان پر اس مقصد کی ترتب یقینی ہے یا غیر یقینی۔ اگر یقینی ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا بھی واجب ہے اور اگر غیر یقینی ہے تو ضعفاء کے لئے اختیار اسباب واجب اور اتویا کے لئے گوجائز ہے مگر ترک افضل ہے۔

اور اگر وہ دنیاوی مباح غیر ضروری ہے تو اگر اس کے اسباب کا اختیار کرنا مضر دین ہو تو ناجائز ہے ورنہ جائز ہے مگر ترک افضل ہے۔ ۱

## البابُ الرَّابِعُ

### متفرق قواعد

#### الَاہِمُ فَالَاہِمُ کے قاعدہ کی تشریح:

فقہاء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ الَاہِمُ فالَاہِمُ کی رعایت واجب ہے (یعنی) جس وقت جو کام اہم ہو اس وقت اس کا کرنا واجب ہے اور جو شے اس میں مخل ہو اس کا ترک واجب ہے۔

چنانچہ اگر نماز کا وقت ہو جماعت تیار ہو اور اس وقت ایک کافر آپ سے یہ کہے کہ مجھے مسلمان کر لو اس وقت اس کو مسلمان کرنا واجب ہے اور جماعت ترک ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے حالانکہ جماعت بھی شرعاً واجب ہے۔

جب شریعت نے الَاہِمُ فالَاہِمُ کے قاعدہ کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ ایک اہم کی وجہ سے دوسرے واجب اور نفل کا ترک واجب کر دیا تو بتلائیے کہ اصلاح دین جب مقدم اور اہم ہے اور شملہ منصوری کا سفر اس میں مخل ہو رہا ہے اور مصلح کے پاس جانے سے مانع ہے کیونکہ اس کے سوا فارغ وقت آپ کے پاس ہے نہیں تو اس حالت میں سفر آپ کے لئے کیونکر جائز ہوگا اور ترک اہم کی وجہ سے یہ مباح کیوں ممنوع نہ ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں کہ جس شخص کو کھانے کی ضرورت ہو اور وہ کھانا نہ کھائے بلکہ اس کے بجائے بازار میں ٹہلتا پھرے اور فضول اشیاء میں سرمایہ فنا کر دے تو کیا اس تفریح پر آپ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے فقہیہ اکٹھا ہو جائیں تو بازار میں ٹہلنے کی ممانعت صراحتاً ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس نے یہ عمل رکھتا میں آپ کو یقین



دلاتا ہوں کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ مارے بھوک کے مر جائے گا۔  
 اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس نے کوئی ناجائز فعل نہیں کیا۔ دونوں فعل ظاہر  
 میں شرعاً جائز تھے، کھانا بھی اور بازار میں پھرنا بھی، مگر پھر بھی اس فعل کے مذموم  
 ہونے کی وجہ اگر ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے کہ دونوں فعل اگرچہ مباح تھے لیکن ان میں  
 ترتیب ضروری تھی۔ ضروری کو اول اور غیر ضروری کو بعد میں رکھنا چاہئے تھا۔ اس شخص  
 نے اس ترتیب کا خیال نہیں کیا اس واسطے ہلاک ہونا اس پر مرتب ہوا۔ یہ بہت موٹی  
 سی بات ہے اس میں کسی کے فتویٰ دینے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ موٹی سے  
 موٹی عقل کا آدمی بھی اس کے خلاف نہیں کہے گا۔

## حقوق العباد حقوق اللہ پر مقدم ہیں

اس قاعدہ کی تشریح:

فقہاء کہتے ہیں کہ ”حَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ“ یعنی بندہ کا حق اللہ  
 کے حق پر مقدم ہے اور منشاء اس کا یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے (اور اللہ محتاج نہیں) مگر اس  
 کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے حقوق اللہ کو ترک کر کے حقوق العبد ہی کو لے لو بلکہ مطلب  
 یہ ہے کہ جہاں دونوں میں تعارض ہو وہاں حق العبد مقدم ہے۔ اور یہ بھی شریعت کا حکم  
 اور حق اللہ ہی ہے اور جہاں تعارض نہ ہو وہاں ہر ایک کو اپنے اپنے موقع پر ادا کرنا  
 چاہئے۔ (مثلاً) نماز پڑھنے اور قرض ادا کرنے میں کیا تعارض ہے۔ کچھ بھی نہیں۔  
 پس نماز بھی پڑھو اور قرض بھی دو تعارض کی صورت یہی ہے کہ مثلاً ایک شخص کے پاس  
 سو روپے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہونی چاہئے مگر اس شخص پر کسی کا قرض بھی ہو تو اس  
 وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کسی کا دین ہے تو پہلے بندہ کا حق ادا کرو، زکوٰۃ

ساقط ہے۔

یہاں فقہاء فرماتے ہیں کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے اور یہ بھی حقیقت میں حق اللہ ہی ہے کیونکہ بندوں کے حقوق کا ادا کرنا حق تعالیٰ ہی کے حکم کی وجہ سے تو لازم ہے۔ حق تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اس بناء پر یوں کہنا چاہئے کہ ایک حق اللہ دوسرے حق اللہ پر مقدم ہو گیا اس لئے حق اللہ و حق العبد میں تعارض بھی نہیں مگر چونکہ ظاہر میں حق العبد معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے مگر یہ ظاہری تقدیم ہے۔

اور ایک حقیقت کی بنا پر یہ ظاہری تقدیم بھی رافع ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت حق تعالیٰ نے میرے قلب پر وارد فرمائی ہے۔ میں نے منقول کہیں نہیں دیکھا وہ یہ کہ حق اللہ سے مراد حق النفس ہے کیونکہ جن امور کو حق اللہ کہا جاتا ہے وہ طاعات و عبادات ہیں اور ظاہر ہے کہ بندہ کے افعال سے حق تعالیٰ کا نہ کوئی نفع ہے نہ ضرر ہے بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ ہے بندہ ہی کا ہے تو یقیناً حق اللہ میں جو اضافت ہے یہ اضافت نفع یا ضرر کی نہیں ہو سکتی جیسے حق العبد اضافت نفع یا ضرر کے لئے ہے کہ وہ ایسا حق ہے کہ جس کا ادا کرنا بندہ کو نافع اور اس کا تلف کرنا بندہ کو مضر ہے۔ اس طرح یہاں نہیں کہہ سکتے کہ یہ طاعات و عبادات ایسے حق اللہ ہیں کہ ان کا ادا کرنا خدا کو نافع اور تلف کرنا ان کو مضر ہے۔ (نعوذ باللہ)

پس میرے نزدیک حق اللہ سے مراد حق النفس ہے اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہے۔ اس تفسیر پر دونوں جگہ اضافت یکساں ہوگی۔ یعنی ہر جگہ اضافت نفع و ضرر کی ہے۔ پس حق اللہ یعنی حق النفس تو وہ ہے جس کا ادا کرنا اپنے آپ کو نافع ہے اور ضائع کرنا اپنے آپ کو مضر ہے اور حق العبد یعنی حق الغیر وہ ہے جس کا ادا کرنا دوسروں کو نافع اور تلف کرنا دوسروں کو مضر ہے۔

پس اس تفسیر پر حق اللہ و حق العبد میں کہیں تعارض نہیں ہوا اور جو اشکال حق العبد

حق اللہ پر مقدم کرنے میں ہوتا تھا وہ بھی نہ رہا کیونکہ اس تفسیر پر جس کو حق اللہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں حق النفس ہے۔

پس جہاں حق اللہ پر حق العبد کو مقدم کیا جاتا ہے وہاں درحقیقت حق الغیر کو حق النفس پر مقدم کیا گیا ہے اور اس میں کچھ بھی اشکال نہیں ہے بلکہ یہ تو ایثار ہے۔  
وَيُؤْتِرُونَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ اَلَيْسَ لَهُ اٰثَارٌ كَرْتُمْ هِيَ  
اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہیں۔

### الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ الْاَلْفَاظِ كَقَاعِدِهِ كِي تَشْرِيح:

فرمایا اصول فقہ کا جو یہ مسئلہ ہے کہ ”الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ الْاَلْفَاظِ لِالْخُصُوصِ الْمُرَادِ“ اس سے میرے نزدیک اتنی قید ضروری ہے کہ وہ عموم متکلم کی مراد سے متجاوز نہ ہو۔ دلیل اس کی وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول ﷺ نے دیکھا کہ سفر میں ہے اور بے ہوش پڑا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھے ہوئے ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ“ یہاں پر اس حدیث پاک کے الفاظ تو عام ہیں ہر مسافر کے لئے چنانچہ بعض نے یہی سمجھا ہے مگر بعض صورت میں اذن صوم فی السفر سے اس کا تعارض ہوگا لیکن قرآن سے کوئی مجتہد ذوقاً یہ حکم کر سکتا ہے کہ حضور ﷺ کو یہ عموم مقصود نہیں بلکہ اس قید کے ساتھ وہ عموم مقصود تھے کہ جس کی ایسی حالت ہو جائے (اس کے لئے سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی ضروری ہے) اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جمہور کے نزدیک اس اصولی مسئلہ میں عموم کے اندر عدم تجاوز از مراد متکلم کی قید معتبر ہے گو مصنفین نے تصریحاً اس کا ذکر نہیں کیا۔

ایک وعظ میں، میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ اس میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری بھی تھے بعد وعظ کے شاہ صاحب سے کسی نے ایک مسئلہ دریافت کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں کہ ابھی وعظ میں اس نے (میری طرف اشارہ

کر کے) مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس قاعدہ میں یہ قید بھی ملحوظ ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب نے اس سے انکار نہیں فرمایا بلکہ اثبات فرمایا۔

### قاعدہ لاعبرۃ لخصوص المورود:

لاعبرۃ لخصوص المورود بل لعموم الالفاظ۔ یعنی خصوص مورد کا اعتبار نہیں بلکہ عموم الفاظ کا ہے۔ مثلاً کوئی آیت کسی خاص موقع میں نازل ہوئی تو وہ اسی موقع کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جو واقعہ بھی اس کے مثل پیش آئے گا تو وہ (نص) اس کو بھی شامل ہوگی۔ جیسے ویل للمطففين اذا كانوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون۔ یہ آیت بعض اہل کیل و وزن کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر ان ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگی۔ اسی طرح بہت سی آیات ہیں کہ مورد ان کا خاص ہے مگر حکم عام ہے۔

غرض آیت گو ایک واقعہ خاص میں نازل ہوئی ہے مگر اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کیونکہ ہر واقعہ کے لئے ایک قانون ہوتا ہے۔ سو اگر اس واقعہ کے قبل بنا ہوا ہے تب تو فیہا اور اگر بنا ہوا نہیں ہے تو اس کے لئے قانون بنایا جاتا ہے اور جب تک حکومت رہتی ہے وہ قانون جاری رہتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعات کا انحصار ہو نہیں سکتا۔ اس لئے قوانین کلیہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت واقعات کو ان قوانین میں داخل کر سکیں اس سے فقہاء کے اس کہنے کا راز معلوم ہو گیا کہ لاعبرۃ لخصوص المورود بل لعموم الالفاظ۔ اور یہ عقلی مسئلہ ہے اس میں زیادہ تفصیل کرنے کی حاجت نہیں۔ ۱۔

ایک طاعت میں دوسری طاعت کا قصد کرنے کی تحقیق اور حدیث  
 انی لاجہز وانا فی الصلوۃ کی تشریح:

سوال:- کسی طاعت میں غیر طاعت کا قصد تو نہ ہو مگر دوسری طاعت کا قصد ہو جیسے نماز  
 کی حالت میں ریا کا قصد تو نہیں اور نہ کسی فعل غیر طاعت کا قصد ہے۔ مگر نماز کی  
 حالت میں قصد کسی شرعی مسئلہ کا مطالعہ (غور فکر) کرتا ہے یا کسی سفر طاعت کا نظام  
 سوچتا ہے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے یا نہیں۔

الجواب:- یہ مسئلہ دقیق ہے۔ قواعد سے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ اس وقت دو  
 حدیثیں میری نظر میں ہیں۔ ایک مرفوع جس میں یہ جز ہے صلی رکعتین مقبلاً  
 علیہا بقلبہ اور دوسری موقوف حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول جس میں یہ جز ہے انی  
 لاجہز حیثی وانا فی الصلوۃ مجموعہ روایتین سے دو درجہ مفہوم ہوئے۔ ایک یہ  
 کہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار بھی نہ ہو، اگرچہ وہ بھی  
 طاعت ہی ہو۔

دوسرا درجہ یہ کہ دوسری طاعت کا غیر ارادی استحضار ہو جائے اور ان دونوں میں  
 یہ امر مشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے۔ مثلاً نماز  
 پڑھنے سے یہ غرض نہیں ہے کہ نماز میں یکسوئی کے ساتھ تجہیز و تہاش کریں گے، پس  
 حقیقت اخلاص تو دونوں میں یکساں ہے۔ اس میں تشکیک نہیں۔ البتہ عوارض کے  
 سبب ان میں تفاوت ہو گیا اور درجہ اول اکمل اور دوسرا درجہ اگر بلا عذر ہے تو غیر اکمل  
 ہے اور اگر عذر سے ہے تو وہ بھی اکمل ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ضرورت تھی۔

اور اس کا معیار اجتہاد ہے لیکن ہر حال میں اخلاص کے خلاف نہیں البتہ خشوع  
 کے خلاف ہونا نہ ہونا نظری ہے۔ میرے ذوق میں بصورت عذر یہ خلاف خشوع بھی  
 نہیں اگر ضرورت ہو۔

(خلاصہ کلام یہ کہ) اگر ایسا خیال ہو جس کی اجازت محبوب کی طرف سے ہو یعنی دین کا خیال ہو اور ضرورت ہو تو وہ خلوت کے منافی نہیں۔ ۱۔

اس خیال کی نظیر وہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسی لاجہز جیشی وانا فی الصلوٰۃ کہ میں نماز میں لشکر کشی کا انتظام کرتا ہوں۔

جب اس کی یہ تھی کہ یہ بھی دین کا کام تھا اور ضروری تھا اور ذکر اللہ و ما والاہ میں داخل تھا اور کثرت مشاغل کی وجہ سے خارج نماز اوقات بعض دفعہ اس کے لئے کافی نہ ہوتے تھے اور نماز میں یکسوئی ہوتی ہے اور تدبیر و انتظام کا کام یکسوئی کا محتاج تھا۔

اس لئے حضرت عمرؓ نماز میں بضرورت باذن حق یہ کام کر لیتے تھے اور اس لئے خلوت و خشوع کے منافی نہ تھا۔ ۲۔

سوال:- اگر نماز اس غرض سے پڑھتا ہے کہ تاواقف آدمی میری نماز کو دیکھ کر اپنی نماز درست کر لے ایسی طاعت کا قصد نماز میں مخلِ اخلاص ہے یا نہیں؟

الجواب:- اس میں خود نماز سے مقصود غیر نماز ہے۔ اس میں بظاہر خلافِ اخلاص ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے مگر میرے ذوق میں اس میں تفصیل ہے کہ شارع کے لئے تو یہ خلافِ اخلاص نہیں وہ اس صورت میں تبلیغ کے مامور ہیں اور غیر شارع کے لئے مامور یہ نماز میں خلافِ احتیاط ہے۔

اور خاص تعلیم کے لئے مستقل نماز (ادا کرنے) کا حرج نہیں۔ ۳۔

## طاعت مقصودہ کو دنیوی اغراض کا ذریعہ بنانا

سوال:- وتر کی نماز میں ”سورہ قدر، وکافرون، اور اخلاص“ بوا سیر مرض کے واسطے مجرب بتلاتے ہیں اگر اس کو التزام کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی قباحت تو نہیں۔  
الجواب:- اس میں منشاء سوال یہ ہے کہ طاعت مقصودہ کو ذریعہ بنایا گیا۔ دنیوی غرض (حاصل کرنے) کا۔ سو اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ ذریعہ بنانا دو قسم پر ہے۔ ایک بلا واسطہ جیسے عالموں کا طریقہ ہے کہ ادعیہ و کلمات سے خاص اغراض مقاصد دنیویہ ہی ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم بواسطہ برکت دینیہ کے کہ طاعات سے اولاً برکت دینیہ مقصود ہوتی ہے۔ پھر اس برکت دینیہ کو موثر اغراض دنیویہ میں سمجھا جاتا ہے۔ احادیث میں جو قربات اور طاعات خاصہ کی بعض خاصیتیں از قبیل اغراض دنیویہ وارد ہیں وہ اس دوسری قسم سے ہیں۔ جیسے سورہ واقعہ کی خاصیت آئی ہے کہ لم تھبہ فاقۃ اور یہ دنیوی خاصیتیں جس طرح وحی سے معلوم ہوتی ہیں کبھی الہام سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ پس عمل مذکور فی سوال بطریق قسم اول نماز کی وضع کے خلاف ہے اور بطریق ثانی کچھ حرج نہیں۔ ۱۔

من صلی رکعتین لم یحدث فیہا نفسہ بشی من الدنیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ۱۔ وهو فی الصحیحین من حدیث عثمان بزیادۃ فی اولہ دون قوله بشی من الدنیا و زاد طبرانی فی الاوسط الا بخیر فیہ .

فائدہ:- ان حدیث النفس الذی یخجل بکمال الصلوۃ ہو ما کان عن قصد اختیار کما هو مدلول قولہ یحدث فان التحدث غیر التحدیث ثم لایدم مطلقاً بل ما کان من الدنیا واما ما کان من الخیر ای الدین فانہ غیر مذموم لکنہ مخصوص بالضروری.

وہ خرج الجواب عما یورد علی قول عمرانی لاجہز جیشی وانا فی الصلوٰۃ وما غیر الضروری فیئہ قولہ علیہ السلام فی مثل هذا الحدیث مقبلاً علیہا بقلیہ . لان الاقبال علی الصلوٰۃ لایجتمع مع الاقبال علی غیر الصلوٰۃ وتجويز الضروری ہوما ادى علیہ رای اخذاً من قولہ من الدنيا وقولہ الا بخیر فی هذا الحدیث ويراجع الی المحققین . ۱

### دفع مضرت و جلب منفعت کا قاعدہ:

فرمایا کہ منفعت قابل اعتبار وہ ہے جو ضرر پر غالب ہو اسی طرح ضرر قابل اعتبار وہ ہے جو نفع پر غالب ہو اور دنیا کی منفعت سے آخرت کی منفعت بڑھی ہوئی ہے اور دنیا کی مضرت سے آخرت کی مضرت بڑھی ہوئی ہے۔ ۲

### اہون الضررین کو اختیار کرنے کا قاعدہ:

فرمایا کہ یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دو قسم کے ضرر جمع ہوں ایک اشد اور دوسرا اہون تو اہون کو اختیار کرنا چاہئے۔ مثلاً باپ نے بچہ کو بے راہی (غلطی) پر مارا تو یہ مارنا بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر یعنی بے راہی اس سے اشد ہے کیونکہ بے راہی اگر بچہ اختیار کئے رہا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مثلاً وہ پڑھتا نہیں یا بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس سے آئندہ چل کر اس کو بہت ضرر پہنچائے گا اور یہ ضرر پہلے ضرر سے اشد ہے۔ اس لئے باپ نے اہون کو اختیار کیا تاکہ بچہ اشد الضررین سے محفوظ رہے۔ ۳

۱۔ مجالس حکیم الامت صفحہ ۱۵۲ جس العریض صفحہ ۶۳۳ ج ۳، افاضات الیومیہ صفحہ ۲۰۲ ج ۱۰ رسالہ اشرف صفحہ ۲  
ریج الثانی ۱۳۳۵ھ۔ (۱) ملفوظات اشرفیہ صفحہ ۴۱۔ (۲) صفحہ ۱۱۵۔



## عدم النفع اور مضرت کا فرق:

ضرر اور چیز ہے عدم النفع اور چیز ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھئے، مثلاً آپ کی جیب میں ایک سو روپیہ کا نوٹ تھا۔ ایک شخص نے آپ سے وہ چھین لیا تو یہ ضرر ہے اور اگر آپ کو ایک نوٹ دینا ہو مگر پھر کوئی اس نوٹ کو دینے سے منع کر دے تو اس میں آپ کا ضرر کچھ نہیں ہوا بلکہ صرف عدم النفع ہوا۔ ۱۔

## اخف المفسد تین کو اختیار کرنے کا قاعدہ:

یہ قاعدہ عقلی بھی ہے اور شرعی بھی کہ جہاں دونوں شقوں میں مفسدہ ہو مگر ایک میں اشد ایک میں اخف تو اشد سے بچنے کے لئے یا اس کو دفع کرنے کے لئے اخف کو گوارہ کر لیا جاتا ہے۔ ۲۔

قاعدہ شرعیہ ہے کہ اشد الضررین کے دفع کے لئے اخف الضررین کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ حصول نفع کے لئے ضرر دینی کو گوارہ نہیں کیا جاتا۔ ۳۔

یہ قاعدہ عقلیہ کہ جس جگہ دو قسم کے ضرر جمع ہوں ایک اشد اور دوسرا ہون تو ہوں کو اختیار کرنا چاہئے۔ مثلاً باپ نے جو بچہ کو بے راہی پر مارا تو یہ مارنا بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر یعنی بے راہی (گمراہی) اس سے اشد ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ۴۔

کَمَا قَالُوا مِنْ ابْتِلَىٰ بِلَيْتَيْنِ فَلَیٰخْتِرَا هُوَ نَهْمَا جَسَّ كَمَا ذَكَّرْنَا فِيهِ مِنْ  
سے ایک حدیث بریرہ میں یہ ارشاد نبوی ﷺ بھی ہے۔ اعتقیہا واشترطی لہم  
الولاء وقال السنوی فی شرح مسلم مانصہ والثانیۃ والعشرون.  
احتمال اخف

۱۔ تربیت السالک صفحہ ۱۹، افادات اشرفیہ صفحہ ۳۳۔ ۳۔ امدادی التناوی صفحہ ۴۳ ج ۳۔

المفسدین لدفع اعظمتها واحتمال مفسدة يسيرة لتحصیل عظیمه  
علی ما بینا فی تاویل شرط الولاء لهم۔

اشد المفسد تین کے رفع کرنے کے لئے اخف المفسد تین کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور ہے تو یہ بھی برا مگر بہ نسبت دوسرے مفسدہ کے پھر بھی اخف ہے۔ میں اس کی ایک نظیر (مثال) بیان کرتا ہوں کہ بعض دیہات کی نسبت معلوم ہوا کہ وہاں بہت سے مسلمان آریہ ہونے والے ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء وہاں گئے ہوئے تھے، میں بھی گیا تھا وہاں ایک شخص تھا ”ادھار سنگھ“ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم آریہ بنو گے؟ کہنے لگا ”آریہ کا ہے کو بننا ہم تو تاجیہ (تعزیہ) بناتے ہیں۔“ میں نے کہا تعزیہ خوب بنایا کرو اس کو مت چھوڑنا۔ میں نے اس کو بدعت کی اجازت نہیں دی بلکہ کفر سے بچانا چاہا۔ اخف المفسد تین کو اختیار کر لیا کیونکہ آریہ بننا تو کفر ہے اور یہ بدعت ہے جو اخف ہے۔ (اسی طرح) میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ رشوت لینا گناہ ہے۔ خیر اگر تم کم ہمتی سے ضرورت ہی کہتے ہو تو لو مگر براتو سمجھو اور اکل حلال کی فکر کرو۔

حلال و حرام کا مجموعہ حرام ہی ہوتا ہے:

اصولین و فقہاء کا مسئلہ مسلمہ ہے۔ ما اجتماع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام۔ یعنی مجموعہ حلال و حرام کا حرام ہی ہوتا ہے اور یہی مسئلہ عقلی بھی ہے۔ بلکہ اگر صرف جزو مباح ہی پر نظر کی جائے مگر وہ فیصلہ ہو جائے کسی مقصود و غیر مباح کا سو باقاعدہ شرعیہ مقدمہ الحرام حرام خود وہ جز مباح بھی غیر مباح ہو جاتا ہے۔ ۲۔

معصیت کے ذریعہ معصیت کو دفع کرنا جائز نہیں:

ترک معصیت کے لئے معصیت کا اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں بلکہ ابتداء ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ مثلاً نظر بد کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے دیکھ لیا جائے بلکہ علاج غرض بصر ہے یعنی نگاہ نیچی رکھنا۔ گوسخت مشقت ہو۔ ۱

ایک صاحب علم کی بابت فرمایا کہ وہ جو پور میں ہر ماہ میں اور بالخصوص محرم میں دسویں کیا کرتے تھے اور اس کی حکمت یہ بتلاتے تھے کہ میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ لوگ شیعوں کی مجلس میں نہ جائیں۔ ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے خوب جواب دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی بھی اسی نیت سے کرنی چاہئے تاکہ لوگ ان کے جمعوں میں نہ جائیں کیونکہ نفس معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ ۲

طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانا جائز ہے:

میں نے عرض کیا کہ سنتوں میں قرآن شریف کو مسلسل پڑھا کرے بغرض حفظ قرآن کے (آیہ) جائز ہے یا نہیں؟ وجہ شبہ یہ تھی کہ اس صورت میں سنتیں من وجہ مقصود بالغیر ہو گئیں اور مقصود بالذات حفظ قرآن رہا اور سنتیں اس کا ذریعہ۔

فرمایا کہ جائز ہے کیونکہ حفظ قرآن بھی طاعت ہے اور طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ ۳

عدم نقل حجت ہے یا نہیں:

مفتی صاحب نے عرض کیا عدم نقل تو دلیل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایسے مہتمم باشندان امور میں عدم نقل بھی دلیل ہو سکتی ہے۔ بہت سی جگہ فقہاء اور محدثین کسی امر کی نفی کے لئے فرماتے ہیں لم یثبت۔ ۴

جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اس قاعدہ کی تشریح:

فرمایا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر عمل میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا مگر میرے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اعمال مقصودہ میں تو یہ بات صحیح ہے جیسے نماز، روزہ، وضو، طہارت وغیرہ کہ سردی کے وقت یا تکلیف کی حالت میں وضو کا ثواب زیادہ ہے۔ گرمی میں روزہ کا ثواب زیادہ ہے مگر جو اعمال خود مقصود نہیں بلکہ ذرائع مقصود ہیں ان میں بلا وجہ زیادہ مشقت برداشت کرنے سے ثواب زیادہ نہیں ہوتا۔ مثلاً وضو کا پانی پاس موجود ہے، اس کو چھوڑ کر تین میل دور سے پانی لا کر وضو کرے تو یہ زیادہ ثواب کا سبب نہیں۔ آیات قرآنیہ ماجئل علیکم فی المدین من حرج اور حدیث الدین یسر جاننے کے بعد بھی جو شخص مشقت کو جزء دین سمجھے تو ان نصوص کا مقابلہ ہے نحوذ بان اللہ من ذلک۔

مقصود میں مشقت اٹھانا تو موجب اجر ہے لیکن جو ذریعہ مقصود ہو اس میں جو آسان صورت ہو اسی کو اختیار کرنا افضل ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کو جب کسی امر کی دو مشقتوں میں اختیار دیا جاتا تو جو مشقت زیادہ آسان ہوتی تھی آپ ان کو اختیار فرماتے تھے اور فطرت سلیمہ کا بھی یہی مقتضی ہے۔ مثلاً کسی کو وضو کرنا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہیں حوض میں وضو کر لے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو کوس چل کر ”جلال آباد“ پہنچے اور وہاں سے وضو کر کے آئے۔ چونکہ وضو مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود یعنی نماز کا ذریعہ ہے اس لئے اس میں زیادہ مشقت اٹھانا موجب زیادت اجر نہیں بلکہ جو سہل صورت ہے اسی کو اختیار کرنا افضل ہے۔ برخلاف اس کے اگر نماز میں طویل قرأت کرے مثلاً ایک رکعت میں تو سورہ بقرہ پڑھے اور دوسری میں آل عمران تو اس مشقت کی وجہ سے اس میں زیادہ اجر ہے بہ نسبت اس نماز کے جن میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی گئی ہوں کیونکہ نماز

مقاصد میں سے ہے مگر اس میں حدود ہیں۔ مثلاً ساری رات نقلیں پڑھتا رہا اور اتنی دیر میں سویا کہ وقت پر آنکھ نہ کھلی اور صبح کی جماعت فوت ہوگئی تو اس کی بھی ممانعت ہے۔  
کبھی مسبب سے سبب کا وجود ہوتا ہے:

جیسے سبب سے مسبب کا حدوث ہوتا ہے ایسے ہی بعض اوقات مسبب سے بھی سبب پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ حیات میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کھانا مسبب اور رغبت اس کا سبب ہے۔ لیکن بچہ کا دودھ چمڑایا جاتا ہے تو غذا اس واسطے دیتے ہیں کہ اس کا مسبب یعنی رغبت پیدا ہو جائے۔

(اسی طرح مثلاً) کسی کے کلام میں روانی نہ ہو لیکن روانی نہ ہونے کا سبب خوف آخرت ہو وہ عین مطلوب ہے۔ لیکن اگر خوف آخرت بھی سبب نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو تو اس کے مصالحہ پر نظر کر کے یہ حالت بھی مبارک ہے کیونکہ توقع ہے کہ اس عدم روانی سے جو کہ بعض اوقات مسبب ہوتا ہے خوف آخرت سے خود سبب یعنی خوف آخرت بھی پیدا ہو جائے۔ ۲

### نفع لازم مقدم ہے یا نفع متعدی:

حضور ﷺ تشریح کے لئے بعض کام کیا کرتے تھے۔ یہ صورت ریاکی ہے مگر دراصل ریا نہیں ہے۔ چونکہ نفع متعدی نفع لازم سے افضل ہے اس لئے اصلاح کا یہ افضل طریقہ ہے کہ جو کام دوسروں سے کرانا چاہتے ہو ان کو خود کرنے لگو عمل لازم سے افضل ہوگا۔ ۳

نفع متعدی نفع لازم سے افضل ہے۔ یہ قاعدہ اس شخص کے لئے جو نفع لازم سے فارغ ہو گیا ہو اور نفع متعدی میں مشغول ہونا اس کے لئے نفع لازم میں خلل انداز

نہ ہوتا ہو۔ جیسے پڑھانا اسی کے واسطے افضل ہے جو پڑھنے سے پوری طرح فارغ ہو چکا ہو۔ نفع متعدی میں فضیلت اسی واسطے ہے کہ وہ نفع لازم کا ذریعہ ہے۔ اس لئے جس وقت نفع متعدی سے نفع لازم کا ذریعہ ہونے کی امید نہ ہو اس وقت نفع متعدی کے ترک کا حکم ہے۔ اصل مقصد نفع لازم ہے اور نفع متعدی مقصود نہیں بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے۔ ۱۔

**نفع لازم مقصود بالذات اور نفع متعدی مقصود بالعرض ہے:**

اصل یہی ہے کہ نفع لازمی نفع متعدی سے افضل ہے کیونکہ آیت میں رسول اللہ ﷺ کو حکم ہے۔ جب آپ نفع متعدی سے فارغ ہو جائیں یعنی تبلیغ سے تو نفع لازمی میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی توجہ الی اللہ میں یہ سیاق صاف بتلا رہا ہے کہ نفع لازمی نفع متعدی سے افضل ہے کیونکہ متعدی سے فارغ کو طلب کیا گیا ہے نہ کہ لازمی سے۔ پھر اس کے بعد نفع لازمی میں اشتغال کا حکم ہے کہ اس میں توجہ رکھے، اس وقت دوسری طرف التفات نہ ہو جیسا کہ الی ربک فساد غیب کی تقدیم کا مقتضی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر نفع متعدی افضل ہوتا تو اس سے فراغ مطلوب نہ ہوتا۔

نفع متعدی مقصود بالعرض اور نفع لازمی مقصود بالذات ہے اور گو یہ مشہور کے خلاف ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ ۲۔

میں پوچھتا ہوں اگر نفع متعدی مقصود بالذات ہے تو جو حربی دارالحرب میں اسلام لائے اور نفع متعدی پر قادر نہ ہو تو بتلائیے وہ کیا کرے۔ نفع لازمی کو لازم پکڑے یا نفع متعدی کو۔ اگر نفع متعدی میں مشغول ہونا لازم کیا گیا تو تکلیف مالا یطاق اور اگر نفع لازمی کا اس کو امر کیا گیا تو ثابت ہوا کہ نفع متعدی مقصود بالذات نہیں کیونکہ مقصود بالذات سے کوئی مسلمان محروم نہیں ہو سکتا۔ پس نفع متعدی مقصود بالذات نہیں بلکہ

مقصود بالعرض ہے اور مقصود بالذات مقصود بالعرض سے افضل ہوا کرتا ہے۔ ۱۔

عملی فساد کے لئے قوی اصلاح کافی نہیں بلکہ عملی اصلاح تبلیغ بھی ضروری ہے۔  
محض قوی اصلاح کافی نہیں بلکہ عملی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجھے نکاح  
بیوگاں کے معلق پہلے بڑا شبہ تھا کہ علماء اس کی اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں؟ نکاح  
ثانی کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، صرف سنت ہے۔ علماء یہی کہہ دیں کہ سنت ہی سمجھنا  
واجب ہے۔ باقی عملاً اس کے درپے کیوں ہوتے ہیں۔ کئی سال تک مجھے یہ شبہ رہا۔  
بچپن کا زمانہ تھا پھر الحمد للہ سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ یہ فساد عملی ہے اس لئے اصلاح بھی  
عملی ہونی چاہئے۔ ۲۔

### اعانت علی المعصیۃ کے حدود:

اس میں روایات فقہیہ بظاہر بہت مزاحم معلوم ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ میں اصل  
مذہب اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں کسی قائل مختار کا فعل متکمل ہو جائے  
بشرطیکہ انتفاع اس شے سے وجہ محروم (حرام) میں منحصر نہ ہو تو اس کی بیع وغیرہ اعانت  
علی المعصیۃ نہیں ہے۔ گو کراہت بمعنی خلاف اولیٰ سے خالی نہیں ہے جس کا حاصل یہ  
ہے کہ فتویٰ سے جائز ہے اور تقویٰ کے خلاف ہے۔

اس کا قاعدہ روایات فقہیہ جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز بجز  
معصیت کے اور کسی مباح غرض میں کام نہ آسکے اس کی بیع تو حرام ہے اور جو دوسرے  
کام میں بھی آسکے اس کی بیع میں حرمت نہیں۔ ۳۔

### معصیت کا ذریعہ اور سبب بھی معصیت ہے:

جو ذریعہ گناہ کا ہو وہ بھی گناہ ہوتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں عشاء کے بعد

باتیں کرنے سے ممانعت آئی ہے اور اس کی وجہ شراح حدیث نے یہ لکھی ہے کہ اس سے صبح یا تہجد کی نماز میں خلل پڑے گا۔

”ابھوا ما ابھم اللہ“ اللہ نے جن امور کو مبہم رکھا ہے ان کو مبہم رکھو!

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے ایصالِ ثواب میں سب مردوں کو برابر ملے گا یا سب پر تقسیم ہوگا۔ فرمایا عقائدِ مبہمہ میں جازم (یقینی و تعینی) جواب دینا ضروری نہیں۔ اس میں صحابہ کرام کا طرز نہایت اچھا تھا کہ مبہم کا عقیدہ مبہم رکھتے تھے۔ شریعت نے اس میں تفصیل بیان کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔

(اسی طرح) نماز اور وضو دونوں نص کی تصریح کے مطابق مکفر سینات ہیں۔ باقی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کس قدر کس سے کفارہ ہوتا ہے۔ یہ نصوص میں مبہم ہے۔ تم بھی مبہم ہی رکھو۔ محض ظن کی بناء پر خاص تعین کے درپے نہ ہو۔ یہ تو وہ پوچھتے جس کا نعوذ باللہ اللہ میاں سے مطالبہ کرنے کا ارادہ ہو۔

عقائد میں ظن کا دخل نہیں، البتہ قہمیات میں ہے۔ کیونکہ فقہ میں عمل کی ضرورت ہے اور عقائد میں کوئی گاڑی اٹکی ہے۔ اس کو طالب علم یاد رکھیں۔ ۲

دو قرأتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں اس قاعدہ کی تشریح:

قرأتیں بمنزلہ آیتیں کے ہیں۔ ہر ایک کا مفہوم ثابت کرنا لازم ہے اور ایک آیت دو قرأتوں کو ایک ساتھ عمل میں جمع کرنا فقہاء کے عمل سے ثابت ہے، چنانچہ حتیٰ یطہرون میں فقہاء نے دونوں قرأتوں کو جمع کر کے احکام مستطب کئے ہیں۔ اسی طرح میں وارجلکم الی الکعبین میں دونوں قرأتوں کو جمع کیا ہے کہ دونوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہوا کہ بیرون کول مل کر دھویا کرو کیونکہ ان پر پانی بہا لینا عموماً کافی نہیں



ہوتا۔ اسی لئے فقہاء نے دلک کو مطلقاً اور دلک رجلیں کو خصوصاً مستحب کہا ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین مالکیت اور ملکیت دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بھی ہیں ملک بھی ہیں۔ ۱

### قاعدہ الشئی اذا ثبت ثبت بلوازمہ:

قاعدہ مسلمہ ہے الشئی اذا ثبت ثبت بلوازمہ۔ اس قاعدہ میں کسی عاقل کو کلام نہیں، بالکل ظاہر بات ہے میں اس کے متعلق چند مرتبہ مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ ایک بہت ظاہر مثال اس وقت بھی عرض کرتا ہوں۔ مثلاً کسی شخص کا نکاح کرایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں لڑکی کو اتنے مہر پر قبول کیا؟ وہ کہتا ہے قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی بلاشبہ یہی ہوتے ہیں کہ میں نے مکان دینا بھی قبول کیا، کھانا کپڑا بھی قبول کیا اور بھی اخراجات بی بی کے قبول کئے۔ اور یہ معنی اسی قاعدہ کی بناء پر ہیں۔ الشئی اذا ثبت ثبت بلوازمہ۔ اب فرض کیجئے اس نکاح کو چند روز بعد ماں باپ نے علیحدہ کر دیا کہ کماؤ کھاؤ، جب علیحدہ ہوئے تو بی بی نے کہا کہ گھی چاہئے، آٹا چاہئے، دسوں قسم کے جھگڑے بتلا دیئے۔ اس نے سن کر کہا کہ نکاح میں یہ کب ٹھہرایا تھا کہ یہ بھی لاؤں گا اور وہ بھی لاؤں گا اس کا تو ذکر بھی نہ ہوا تھا نہ اس کو میں نے قبول کیا تھا۔ غرض تکرار بڑھا..... میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہو اور آپ حج ہوں تو آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جملہ ضروریات اس کے ذمہ ہیں اور کسی عورت کو نکاح میں قبول کرنے کے معنی یہی ہیں کہ میں نے آٹا لانا بھی قبول کیا، کھانا کپڑا دینا بھی قبول کیا، جملہ ضروریات قبول کیں۔ نکاح کے قبول کرنے میں یہ سب چیزیں بھی آگئیں۔

بس اسی طرح لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ لو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اس میں یہ اقرار بھی آگئے کہ نماز بھی پڑھوں گا روزہ بھی رکھوں گا۔ زکوٰۃ بھی دوں گا۔ حج بھی کروں گا۔ تمام احکام کا اقرار اسی میں آ گیا۔

### حسانات الابراہیمیات المقربین کا قاعدہ:

حسانات الابراہیم سنیات المقربین۔ یعنی اچھے لوگوں کی حسانات مقربین کے لئے سنیات ہوتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی جتنی زلات (لغزشیں) مذکور ہیں۔ سب طاعات تھیں مگر چونکہ صورتہ یا مجازاً ذنب تھیں اس لئے ان کو ذنب کہا گیا۔ زلات انبیاء ذنب حقیقی نہیں کیونکہ وہ اس سے معصوم ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ذنب دو قسم کے ہوئے، ایک تو وہ قانون مقرر کرنے کے بعد معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً قانون مقرر ہوا کہ زنا کرنا حرام ہے۔ بس قانون مقرر کرنے کے بعد زنا کا ذنب ہونا معلوم ہو گیا۔ یہ تو ذنب حقیقی ہوا۔ اس سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کے متعلق ابھی کوئی قانون نازل نہیں ہوا بلکہ عتاب کے بعد ان کا نامناسب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ذنب صوری ہے بلکہ واقع میں صوری بھی نہیں مجازاً اور مجاز بھی ضعیف ذنب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ یہ معنی ہیں لیغفر اللہ ماتقدم من ذنبک کے پس کوئی کسی قسم کا دوسو نہ کرے۔ آپ گناہوں سے بالکل مقدس و مبرا ہیں۔

رہا یہ شبہ کہ اگر یہ گناہ نہ تھا (عیس و تولی کے شان نزول میں) تو پھر عتاب کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبوب اپنے محبت کو خلاف شان امر پر بھی عتاب کر سکتا ہے۔ مگر غیر محبوب کی مجال نہیں کہ دیکھئے ازواج مطہرات کے بارے میں حق سبحانہ و

تعالیٰ کا ارشاد ہے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة یرضع لہا العذاب ضعفین۔ کہ اگر تم سے ناشائستہ حرکت یعنی ایذا رسول کا صدور ہو تو دو گنی سزا ہوگی۔ آگے ارشاد ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ کہ تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو تمہارا معاملہ ہی جدا ہے۔

خود حضور ﷺ کے لئے تجویز کیا گیا تھا اذا لاذقناک ضعف الحیاة وضعف الممات (جب تو ہم تم کو جیتے اور مرتے دوہری دوہری سزا کا مزہ بھی چکھا دیتے۔)

اسی طرح مقرر میں کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اکیلے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں دو کو چڑھتا ہے کیونکہ ہم کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ جتنا مطالبہ زیادہ ہے اسی قدر اجر بھی زیادہ ہے۔

بہر حال اس بلندی مرتبہ کی وجہ سے ایسے امور پر بھی عتاب ہوتا جاتا ہے جو واقع میں ذنب نہیں ہوتے۔ (التبلیغ صفحہ ۱۹۱ ج ۱۷)

ایک روز بارش ہوئی، ایک بزرگ کہنے لگے کہ آج کیسے موقع پر بارش ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کلمہ ثناء شکر کا ہے یا نہیں۔ مدح اور طاعت ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کلمہ مدح کا ہے انہوں نے شکر بھی ادا کیا اور مدح بھی کی۔ دونوں عبادتیں جمع ہو گئیں۔ مگر چونکہ ہر رتبہ کا حکم جدا ہوتا ہے اس لئے ان سے اس پر باز پرس ہوگی اور الہام ہوا کہ بے ادب تو جو کہتا ہے کہ آج بڑے موقع پر بارش ہوئی تو تباہے موقع کس دن ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ مدح تھی مگر پھر بھی عتاب ہوا۔ چونکہ اس جملہ میں ایہام تھا۔ دوسری جانب (بے ادبی) کا اس لئے عتاب ہو گیا۔ ایسے حقوق کا مطالبہ بھی مقررین ہی سے ہوتا ہے۔ ا۔

جو فعل شارع سے غلبہ حال کی وجہ سے صادر ہو وہ مشروع نہیں  
انبیاء و کالمیلین پر بھی حال طاری ہوتا ہے:

جو فعل شارع سے تشریحاً صادر نہ ہو بلکہ غلبہ حال سے صادر ہو وہ مامور بہ نہ  
ہوگا۔ (مثال کے طور پر) صلوٰۃ کسوف میں تعدد رکوعات کہ اس وقت حضور ﷺ پر  
تجلیات کا غلبہ تھا۔ کبھی آپ پر ایک تجلی غالب ہوتی جس کا مقتضا طول قیام تھا۔ کبھی  
دوسری تجلی غالب ہوتی۔ جس کا مقتضا رکوع تھا۔ رکوع سے فارغ ہو کر پھر وہ تجلی  
غالب ہو گئی جو قیام کو مقتضی تھی۔ اس لئے پھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد پھر تجلی مقتضی  
رکوع کا غلبہ ہو گیا۔ اسی غلبہ تجلیات میں آپ نے متعدد بار قیام اور متعدد بار رکوع کئے  
اور جو فعل شارع سے تشریحاً صادر نہ ہو بلکہ غلبہ حال سے صادر ہو وہ مامور بہ نہ ہوگا، لہذا  
صلوٰۃ کسوف میں تعدد رکوعات مشروع نہیں۔

بعض دفعہ کالمیلین پر بھی حالات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل میں بھی دوسروں  
کی طرح اس کا قائل تھا کہ کالمیلین پر احوال کا غلبہ نہیں ہوتا مگر الحمد للہ اب تحقیق بدل گئی  
اور معلوم ہوا کہ گاہے ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر میں جب حضور ﷺ نے  
مسلمانوں کے غلبہ کی دعا فرمائی تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

اللهم ان تہلک هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم! اے اللہ اگر یہ مختصر  
سی جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد کوئی آپ کی عبادت نہ کرے گا۔

حضور ﷺ کے درجہ پر نظر کرتے ہوئے یہ امر بعید معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس  
طرح کھل کر گفتگو فرمائیں۔ مگر اس کا راز یہ ہے کہ مقررین کالمیلین کا یہی کمال ہے کہ  
بادشاہ کے مزاج شناس ہوں۔ حق تعالیٰ تو مزاج سے پاک ہیں مگر وہاں تجلیات و شیون

بے انتہاء ہیں۔ جن کے مقتضیات مختلف ہیں۔ عارف ان شیون اور تجلیات کے مقتضی کی پوری رعایت کرتا ہے۔ جس وقت جو شان ظاہر ہوتی ہے اسی کے موافق گفتگو کرتا ہے۔ اس وقت حضور ﷺ پر شان محبت اور تجلی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس وقت حق تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان پر ناز کروں اس لئے کھل کر ناز کرنے لگے۔

۱۱۔ طرح حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تو ایک زمانہ تک صحت کی دعا نہ کی ان کی بیوی نے کہا بیماری کو بہت دن ہو گئے اب دعا صحت فرمائیے۔ فرمایا کہ اسی برس تو بیماری پر گزرنے دو جتنے دنوں ہم نے راحت سے زندگی بسر کی ہے۔ ابھی کیا جلدی ہے۔ اس وقت آپ پر اس حالت کا غلبہ تھا کہ حق تعالیٰ میرا صبر دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے پورا صبر کیا۔ حتیٰ کہ دعا بھی نہ کی۔ حالانکہ دعا صبر کے منافی نہ تھی مگر صورتہ اس میں بیماری سے ناگواری اور ضجر کا اظہار ہے۔ اس لئے دعا نہ کی پھر جب منکشف ہوا کہ اب حق تعالیٰ شان عبدیت کا اظہار چاہتے ہیں تو فوراً دعا کرنے لگے۔ رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ اور اس مصیبت کو شیطان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ۲

ایک اہم قاعدہ فقہیہ :

حضور ﷺ کی عادت تھی کہ عبادت میں رات بھر کھڑے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ قدم مبارک ورم کر آتے تھے حالانکہ حق تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ فرمایا ہے لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک وما تاخو کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنوب سب بخش دیئے۔ اس پر بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ آپ مشقت کو کم کر دیں کیونکہ جب مغفرت ہو چکی تو اب مشقت کی کیا ضرورت ہے۔ اسی بناء پر حضور ﷺ

سے عرض کیا کہ اب تو حق تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اگلے پچھلے ذنوب سب معاف کر دیئے، اب اس قدر مشقت نہ اٹھائیے۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبداً شکوراً کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ۱۔

حضور ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ مغفرت تامہ کا جو مطلب سمجھے ہو وہ صحیح نہیں (کہ عبادت میں کمی کر دی جائے) بلکہ یہ معلوم ہو کر تو عبادت میں اور زیادتی ہونی چاہئے اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اس عبادت شاقہ کا ایک مقتضی نہ سہی یعنی طلب مغفرت کیونکہ وہ حاصل ہوگئی لیکن دوسرا مقتضی تو موجود ہے۔ یعنی شکر۔

اس حدیث سے ایک قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی طاعت کسی مقصود کے واسطے کی جائے اور قبل طاعت وہ مقصود حاصل ہو جائے تو اس طاعت کو چھوڑا نہ جائے۔ پس فقہاء کے اقوال کی من وجہ یہ حدیث اصل ہو سکتی ہے کہ اگر نماز استسقاء سے قبل بارش ہو جائے تب بھی نماز پڑھ لیں۔ ۲۔

میرا مقصود اس وقت صرف فقہاء کے اس قول کی اصل بیان کرنا ہے۔ انہوں نے استسقاء نماز کے باب میں بیان کیا ہے کہ نماز کا قصد کر لینے کے بعد اگر نماز سے پہلے بارش ہو جائے تب بھی مناسب ہے کہ نماز پڑھ لی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شکر ہے نعمت کا۔ کذا فی الدر المختار اخبار باب الاستسقاء وقال الشافعی ويستزیدون من المطر۔

اور فقہاء کے اس قول کی من کل الوجوه اصل اس کو اس لئے نہیں کہا کہ من کل الوجوه کہنے پر کچھ سوالات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہی کہ استدلال کلی کی صورت میں اس کا مقتضی یہ ہوگا کہ اگر استسقاء کی نماز پڑھ کر بارش ہو جائے تو پھر نماز پڑھے اور پھر بارش ہو جائے تو پھر پڑھے، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ استسقاء بہیات خاصہ منقول ہے۔ اس میں رائے کو دخل نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ لازم آئے گا کہ ہمیشہ بارش کے بعد نماز استسقاء پڑھا کرنے شکر عطا کے طور پر سوا وجود کے وہ شکر کر رہا ہے۔ نعت کا مگر فقہاء اس کو بدعت قرار دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل نام کچھ اور ہی ہے کیونکہ اگر کوئی مستقل اصل نہ ہوتی تو فقہاء اس پر یہ احکام مرتب نہ کرتے اور وہ وجہ مجھ کو معلوم نہیں چونکہ یہ حدیث من وجہ اصل تھی اس لئے بیان کر دیا۔

من وجہ اس لئے کہا کہ یہ کہیں منقول نہیں دیکھا کہ فقہاء کے اس قول کا اصل ماخذ کیا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ اس اصل پر کچھ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لئے میں اصل کامل کی نقل کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ہاں اس کو فقہاء کے قول کے لئے استیناس کا درجہ ضرور حاصل ہے۔ رہا یہ کہ پوری اصل کیا ہے تو یہ محققین سے معلوم ہو سکتا ہے یا جو محقق ہو خود تحقیق کر لے۔

### ایک اور نظیر:

افعال میں بھی اس کی نظیر موجود ہے وہ یہ کہ جب حضور ﷺ مکہ میں تشریف لائے اور فتح ہوئی۔ مدینہ شریف میں صحابہ کو بخارا آیا تھا وہاں کی آب و ہوا خراب تھی۔ حضور ﷺ کی برکت سے پھر اچھی ہو گئی تو عمرہ کے وقت کفار مکہ نے کہا تھا کہ وہستہر حمی یشرب یعنی ان کو یشرب (مدینہ) کے بخار نے ضعیف کر دیا ہے۔ غرض کہ اس وقت صحابہ پر علات کا اثر تھا۔ حضور ﷺ نے طواف کے وقت فرمایا کہ ذرا دوڑ کر اور سینہ ابھار کر چلنا جس کو رمل کہتے ہیں تاکہ کفار پر مسلمانوں کی قوت ظاہر ہو، حالانکہ وہ موقع عبدیت کا تھا مگر قواعد اور پرید عبدیت کے خلاف تھوڑی ہے اور یہ فرمانا آپ کا نہ تھا اللہ کا فرمانا تھا۔

غرض اس وقت ایک مصلحت سے دوڑ کر چلنے اور سینہ ابھارنے کا حکم ہوا تھا۔ پھر مکہ بھی فتح ہو گیا اور پھر بھی اسی طرح حج و عمرہ ہوا۔ قیامت تک یہی حکم رہا کہ جو لوگ طواف کریں وہ اسی طرح اکثر کر چلا کریں۔ پہلے تو تھا مصلحت سے پھر رہ گیا اظہار

حکمت کے لئے گویا اس وقت اس حالت کا استحضار مقصود ہے۔ یہ فعلی نظیر ہے۔

بہر حال نصوص قرآنیہ اور احادیث مؤیدہ ہیں اس بات پر کہ عطاء کے بعد بھی طاعت کو نہ چھوڑا جائے جب نصوص سے ایک قاعدہ کلیہ نکل آ گیا تو اس کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ عزم کے بعد اگر بارش بھی ہو جائے تو نماز استسقاء ترک نہ کی جائے پہلے طلب کے لئے تھی اب شکر کے لئے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عطاء کے بعد وہ فرد ہوگی شکر ہوگی اس لئے اس کو کرنا چاہئے۔

البتہ اگر شکر کو عام لیا جائے جو نماز استسقاء کی ہیئت کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ کسی دوسری صورت سے ہو۔ مثلاً مطلقاً طاعات میں زیادتی یا زبان سے صیغہ شکر ادا کرنا تو اور بات ہے اس کو ہر نعمت کے بعد شروع کہیں گے۔ بہر حال اتنا قاعدہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ عطاء کے بعد بھول نہ جائے طاعت کو چھوڑے نہیں۔ ۱۔

### مزید توضیح اور دلائل:

میں اس کے بعد مؤیدات بیان کرتا ہوں۔ مثلاً یہ آیت ہے ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا الخ۔ جو چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں یعنی نسیان اور خطاء وغیرہ ان پر مواخذہ نہ ہوتا اس کا لوگوں سے وعدہ ہو گیا تھا اور پہلی آیت یعنی ان تبدوا مافی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به اللہ بالمعنی العام منسوخ ہو گئی تھی۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا کہ رفع عن امتی الخطاء والنسیان مگر پھر بھی یہ حکم ہوا کہ یوں ہی مانگے جاؤ اور یہ دعا تعلیم کی گئی تو بات یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے قبل تو یہ سوال طلب کے لئے تھا کہ ہم سے یوں مانگا کرو اب بطور شکر کے ہے کہ جیسے ہم ملنے سے پہلے محتاج تھے اب بھی محتاج ہیں۔ ۲۔



ایک اہم اصول نہیں کیسے امور میں وارد ہوتی ہے:

شریعت میں اس نکتہ کا بہت لحاظ کیا گیا ہے۔ کہ جو امور مخاطب سے عادتاً ممنوع الصدور ہوں (یعنی جن کا صادر ہونا عادتاً ناممکن ہو) اس سے صراحتاً منع نہیں کیا جاتا کہ اس سے تو یہ خود ہی بچیں گے۔ مثلاً زنا اور چوری سے منع کیا گیا ہے۔ شراب پینے پر وعیدیں بیان کی گئیں ہیں لیکن پیشاب پینے اور پاخانہ کھانے سے صراحتاً منع نہیں کیا گیا ہے کیونکہ عادتاً مسلمان بلکہ صحیح الحواس (جس کے ہوش و ہوا صحیح ہوں اس) سے یہ فعل ممنوع ہے اس سے بچنے کے لئے اسلام اور حواس کی صحت خود زاجر (منع کرنے والی ہے) مستقل خطاب کی کیا ضرورت ہے اور ان الصلوة تہی عن الفحشاء والمنکر میں نہیں کے معنی یہ زاجر (روکنے والا) ہوتا ہے۔ ۱۔

ایک اہم قاعدہ اور مداخلت فی الدین کا مطلب:

شرعی فقہی قاعدہ ہے کہ جو عمل اطلاق کے درجہ میں جس شان کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ جس قید جائز کے ساتھ بھی صادر ہوگا اسی شان کے ساتھ موصوف رہے گا۔ مثلاً ظہر کی نماز فرض ہے اور خاص اس کی یہ قید کہ دو ہی بجے کے وقت ہو فرض نہیں، لیکن اگر دو ہی بجے پڑھی گئی تو اس کو بھی فرض کہیں گے۔ اگر کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ دو بجے پڑھنا جائز نہیں تو وہ یقیناً مداخلت فی الدین ہے۔

اسی طرح جب مطلق نکاح دین ہے تو اگر صغرن کی حالت سے پایا جائے تو اس فرد کو بھی دین کہیں گے تو اس کی ممانعت کا قانون بنانا مداخلت فی الدین ہوگی اور اسی طرح قربانی میں کہیں گے کہ قربانی عبادت ہے اگر بقید بقرہ (گائے) ہو تب بھی عبادت ہے تو اس کی ممانعت مداخلت فی الدین ہوگی خوب سمجھ لیا جائے۔ ۲۔

## ایک قاعدہ:

عام کی دلالت اپنے افراد کے لئے حکم ثابت کرنے میں قطعی ہوتی ہے۔ جب تک کہ خصوصیت کی دلیل نہ ہو خواہ عام ہو تا قطعی ہی ہو۔

## فصل:..... متفرق اصولی باتیں

(۱) احادیث نہی قولی ہیں اور روایات اباحت فعلی اور قولی راجح ہوتی ہے فعلی پر۔ ۲  
 (۲) جو امر نص میں مسکوت عنہ ہو اس کا دعویٰ کرنا کسی قرینہ سے نص کی مخالفت نہیں البتہ امر مثبت فی النص کی نفی یا منفی یا منفی فی النص کا اثبات یہ نص کی مخالفت ہے۔ ۳  
 (۳) جو واقعہ وجوہ مختلفہ کو محتمل ہو اور اس کی وجہ منقول نہ ہو کسی دلیل ظنی سے اس کی تعیین کرنا کچھ مضائقہ نہیں۔ جیسے فلاسفہ، مورخین نے ظن سے ہر واقعہ کے اسباب اور علل نکالے ہیں۔ ۴

(۴) اتحاد اثر سے اتحاد سبب ضروری نہیں اسی طرح اتحاد سبب سے سبب السبب کا اتحاد ضروری نہیں۔ ۵

(۵) کسی شے کا محمود ہونا اس کے مقصود ہونے کو مقتضی نہیں۔ ۶

(۶) ایک علت کے ارتقاع سے دوسرے علل موثر کا ارتقاع لازم نہیں۔ ۷

(۷) استخفاف و دوام سے مکروہ حرام ہو جاتا ہے۔ ۸

(۸) ایک مجتہد کے مقلد کو دوسرے امام کی تقلید کرنا محض اتباع کے واسطے حرام ہے اور

داخل و عید ہوتا ہے۔ یتولون ان، و تتم حد انخذ وہ۔ ۹

۱۔ صفحہ ۲۶۲ ج ۲۔ امداد الفتاویٰ صفحہ ۲۱۹ ج ۲۔ (۷۰، ۵۰، ۲۰، ۳) بوادر النوار صفحہ ۲۸۶۔ (۹، ۸)

امداد الفتاویٰ صفحہ ۲۲۱ ج ۲ و صفحہ ۳۹۱ ج ۳

- (۹) کتب عقائد میں مصرح ہے کہ نصوص ظواہر پر محمول ہوتے ہیں۔ ۱۔
- (۱۰) ممانعت انہیں چیزوں کی ہے جن میں احتمال وقوع زیادہ ہے۔ شراب کی ممانعت آئی ہے کیونکہ اس کی طرف میلان ہونے سے اس کا وقوع زیادہ ہے۔ لیکن پیشاب کی کہیں بھی ممانعت نہیں کیونکہ اسے کون پئے گا۔ ۲۔
- (۱۱) اصول کی تقدیم فروع پر علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اثر مماثل ہو یا قی تعلیم فروع کا نفع یقینی ہو اور اصول کی تعلیم کا محتمل وہاں یہ مقدم ہے۔ ۳۔
- (۱۲) قصر فی الصلوٰۃ کی اصل علت مشقت ہے۔ مگر اس کی پہچان مشکل تھی۔ اس لئے احکام میں سفر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ ۴۔
- (۱۳) اگر کسی ثقہ سے (کوئی امر) خلاف شرع منقول ہوگا اس کی تاویل واجب ہے۔ ۵۔
- (۱۴) صحابہ کے وقت اہتمام نہ ہونا حجت نہیں کیونکہ ان کے یہاں ہر چیز میں سادگی تھی۔ اسی عادت کے موافق عمل بھی تھا۔ ۶۔
- (۱۵) بعض مستحبات عوارض کی وجہ سے واجب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ۷۔
- (۱۶) ادب کا مدار عرف پر ہے۔ یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہو اگر عرفاً بے ادبی سمجھا جائے تو شرعاً بھی وہ فعل بے ادبی میں شمار ہوگا۔ ۸۔
- (۱۷) مقاصد شرعیہ میں تو بدنامی کا کچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی سے بچنا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔ ۹۔
- (۱۸) کسی بات میں بناء کے وقت مصلحت ہوتی ہے بعد میں وہی مصلحت سبب ضرر (و مفسد کا ذریعہ) بن جاتی ہے۔ ۱۰۔

۱۔ امداد الفتاویٰ صفحہ ۲۳۱ ج ۲، صفحہ ۳۹۱ ج ۳۔ ۲۔ طوخطات صفحہ ۹۶۔ ۳۔ افاضات صفحہ ۲۱۶ ج ۷۔ ۴۔ افاضات صفحہ ۲۲۰ ج ۷۔ ۵۔ بواد صفحہ ۳۸۷۔ ۶۔ صفحہ ۷۷۔ ۷۔ افاضات الیومیہ صفحہ ۳۲ ج ۱۰۔ ۸۔ صفحہ ۱۵۲ ج ۱۰۔ ۹۔ افاضات صفحہ ۲۳۰ ج ۹۔ ۱۰۔ احسن العریز صفحہ ۳۳۹ ج ۹۔

## البَابُ الْخَامِسُ

### اباحت و نذوب مصالح و مفاسد کے احکام

#### اعمال کی تین قسمیں:

اہل علم کو معلوم ہے کہ اعمال تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین میں نافع ہیں، ان کو کرنا تو مامور بہ ہے خواہ درجہ فرضیت و وجوب میں ہو یا درجہ سنیت و استحباب میں۔ اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں۔ ان کا ترک مامور بہ ہے خواہ درجہ حرمت میں ہو یا کراہت میں۔

اور بعض وہ ہیں جن کے فعل یا ترک کا امر نہیں وہ مباحات ہیں۔

#### مباح کا حکم اور اس کی دو صورتیں:

مباحات کو اکثر لوگ مامور بہ سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ ظاہر میں وہ مامور بہ فعلاً یا ترکاً نہیں ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی پہلی دو قسموں میں داخل ہے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اثر کے لحاظ سے مباحات دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دین کے لئے نافع ہیں جیسے بغرض حفظ صحت چلنا پھرنا ورزش کرنا۔

یا نافع نہیں اگر دین میں نافع ہے تو وہ فعلاً مامور بہ ہے۔ گو درجہ وجوب میں نہ ہو۔ مگر جب مباح نافع فی الدین کو اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ مستحب ضرور ہو جاتا ہے

اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔

یا وہ دین میں نافع نہیں تو فضول ہے اور فضولیات کا ترک کر دینا مامور بہ شرعاً ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا ینعیہ۔ اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ لایعنی کو ترک کر دیا جائے جب فضولیات کے ترک حسن اسلام میں دخل ہے اور حسن اسلام مامور بہ اور مطلوب ہے تو ان فضولیات کا ترک بھی مامور بہ ہو گیا۔ گو ان کو حرام نہ کہا جائے مگر کراہت سے خالی نہیں۔ ۱

بناء احکام کے اعتبار سے مباح کی دو قسمیں:

مباح شرعی اگر مباح الاصل ہو تو اس میں توسیع کیا جاتا ہے۔ مثلاً مہمان کو کھانے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس میں ہر طرح وسعت سے کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ اور خوب کھاؤ اور حلت اموال اسی نوع سے ہے۔ اور اگر وہ چیز مباح بالضرورۃ اور محرم الاصل ہوتی ہے تو اس میں توسیع نہیں ہوتا بلکہ تصبیق (تنگی) ملحوظ ہوتا ہے۔ جس کا اثر یہ ہے کہ جس عدد اور جس مقدار کی اس میں تصریح ہے اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں اور حلت تزویج اسی نوع سے ہے۔ پس قرآن مجید میں جس قدر عورتوں سے جواز نکاح مذکور ہے اور اس سے زائد کے جواز کی نفی مصرح نہیں ہے تو بانضمام فائدہ مذکورہ چار سے زیادہ نکاح کرنا عدم جواز پر محمول ہو گا۔ ۲

جس مباح یا مندوب سے فساد عوام کا اندیشہ ہو اس کا ترک واجب ہوتا ہے: جس مباح سے فساد عوام کا اندیشہ ہو اس مباح کا ترک واجب ہوتا ہے۔ خصوصاً ایسا مباح جس کے کرنے سے دین پر حرف آتا ہو (جیسے) کسی طوائف کی جائیداد کو مدرسہ میں لے لینا گو کسی تاویل سے اس کا بہہ جائز ہو۔ ۳

## قاعدہ:

قاعدہ شرعیہ ہے کہ فعل مباح بھی اگر مضمّن مفاسد کو ہو تو وہ غیر مباح ہو جاتا ہے۔

مباح تو مباح اگر کسی مستحب میں بھی یہ احتمال ہو کہ عوام کہیں اس کو مستحب کے درجہ سے بڑھا کر موکد یا واجب نہ سمجھنے لگیں تو اس مستحب کو بھی مکروہ قرار دیا جائے گا۔  
قاعدہ مذکور کی دلیل:

ایک قاعدہ سمجھ لیا جائے جو عقلی بھی ہے اور نقلی بھی اور فقہاء حنفیہ نے اس قاعدہ پر بہت سے احکام متفرع کیا ہے۔ وہ یہ کہ جو مباح یا مندوب درجہ ضرورت و مقصودیت فی الشرع تک نہ پہنچا ہو اور اس میں کوئی مفسدہ یا احتمال قریب محتمل ہو تو اس مباح یا مندوب کا ترک اور اس سے منع کرنا لازم ہے۔ عقلی ہونا تو اس کا ظاہر ہے اور نقلی ہونے کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ **وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ لِحُجَّتِهِمْ**۔

ظاہر ہے سب آہہ باطلہ مباح تو ضرور ہی ہے اور بعض حالات میں مندوب بھی مگر مقصود مستقل نہیں کیونکہ اس کی غایت دوسرے طریق سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی حکمت و موعظت و مجادلہ حسنہ اور اس میں مفسدہ تھا کہ مشرکین اللہ الحق کو گالیاں دیں گے۔ اس لئے نبی فرمادی گئی۔ ۱۲ھ۔

امر مباح و مندوب غیر مشروع کے مل جانے کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے:  
فعل مباح بلکہ مستحب بھی کبھی امر غیر مشروع کے مل جانے سے غیر مشروع و ممنوع ہو جاتا ہے۔ جیسے دعوت میں جانا مستحب بلکہ سنت ہے بلکہ وہاں اگر کوئی امر

خلاف شرع ہو تو اس وقت جانا ممنوع ہو جائے گا۔ جیسے احادیث میں آیا ہے اور ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے اور اسی طرح نفل پڑھنا مستحب ہے، مگر اوقات مکروہہ میں ممنوع اور گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ امر مشروع بوجہ اقتران و انضمام غیر مشروع کے غیر مشروع ہو جاتا ہے۔ ۱

امر مندوب سے اگر فساد عقیدہ ہو تو اس کا ترک واجب ہے:  
فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب فعل سے اگر فساد ہو جائے عقیدہ میں تو اس مستحب کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ۲

فقہاء نے لکھا ہے کہ جس مستحب میں مفدے پیدا ہو جائیں اس کو چھوڑ دینا واجب ہے، مستحب کے ترک پر ملامت جائز نہیں۔ خصوصاً جب اس مستحب پر عمل کرنے سے مفاسد پیدا ہوں تو اس مستحب کو چھوڑ دینا چاہئے۔ ۳

جب مصالح و مفاسد میں تعارض ہو:

مصالح و مفاسد میں جب تعارض ہوتا ہے مفاسد کے اثر کو ترجیح ہوتی ہے جبکہ مصالح حد ضرورت شرعی تک نہ پہنچے ہوں۔ ۴

قاعدہ شرعیہ ہے کہ جس عمل میں مفاسد غالب ہوں، اگر وہ (عمل) غیر مطلوب ہو تو نفس عمل سے منع کر دیا جاتا ہے اور اگر مطلوب ہو تو عمل سے منع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان مفاسد کا انسداد کر دیا جاتا ہے۔ ۵

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے کچھ فائدہ اور مصلحتیں بھی ہوں جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو، یا اس کے حاصل کرنے کے اور دوسرے طریقے بھی ہوں اور

۱ اصلاح الرسوم صفحہ ۱۳۲۔ ۲ حسن العزیز صفحہ ۳۶۷ ج ۱۔ ۳ حسن العزیز صفحہ ۶۸ کلہ۔ الحق صفحہ ۳۶۔ ۴

امداد الفتاویٰ صفحہ ۶۹ ج ۲۔ ۵ صفحہ ۸۲ ج ۲ بواد صفحہ ۳۳۲ (بیان القرآن صفحہ ۱۱۹ ج ۳)۔

ایسے فائدوں کو حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جائے یہ بھی جائز نہیں۔

### قاعدہ عامہ کی دلیل اور مفسدہ کی دو قسمیں:

شامی، درمختار نے بحث کراہت تعیین سورۃ میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں تغیر مشروع ہو یا ایہام جاہل ہو وہاں کراہت ہوگی، پس عوام تغیر مشروع کی وجہ سے روکے جاتے ہیں اور خواص ایہام جاہل کی وجہ سے مفسدہ دو ہیں، تغیر مشروع اور ایہام جاہل۔

قاعدہ فقہیہ ہے کہ جس امر جائز بلکہ مندوب میں جو کہ شرعاً اہتمام کے ساتھ مطلوب نہ ہو مفاسد کا غلبہ ہو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ خواہ وہ مفاسد فاعلمین کے اعتبار سے ہوں یا دوسرے عوام ناظرین کے اعتبار سے ہوں۔

یہ قاعدہ عقلی بھی ہے اور نقلی بھی اور فقہاء حنفیہ نے اس قاعدہ پر بہت احکام کو متفرع کیا ہے۔ (یعنی کہ) جو مباح یا مندوب درجہ ضرورت و مقصودیت فی الشرع تک نہ پہنچا ہو، اور اس میں کوئی مفسدہ با احتمال قریب محتمل ہو تو اس مباح یا مندوب کا ترک اور اس سے منع کرنا لازم ہے۔ عقلی ہونا تو اس کا ظاہر ہے اور قبول فقہاء کے بعد اس کے ماخذ عقلی کے نقل کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر تبرعاً اس کو بھی نقل کرتا ہوں۔ سو اس کے نقلی ہونے کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدواً بغیر علم۔ (یعنی معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ لوگ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔)

ظاہر ہے کہ آلہ باطلہ کی مذمت کرنا ان کو سب و ستم مباح تو ضرور ہی ہے اور بعض حالات میں مندوب بھی، مگر مقصود و مستقل نہیں کیونکہ اس کی غایت دوسرے طریقہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی حکمت و موعظت و مجادلہ حسنہ سے اور اس میں مفسدہ تھا۔



مشرکین اللہ الحق کو گالیاں دیں گے اس لئے اس سے نہیں فرمادی گئی۔ ۱۔

## توضیح مثال مع دلیل:

حدیثوں میں سجدہ شکر کا فعل مباح ہے مگر فقہاء حنفیہ نے حسب قول علامہ شامی اس لئے مکروہ کہا ہے کہ کہیں عوام اس کو مقصود نہ سمجھنے لگیں اور عالمگیری میں ہے کہ یہ لوگ نمازوں کے بعد کیا کرتے ہیں لہذا مکروہ ہے اسی لئے کہ جاہل لوگ اس کو سنت اور واجب سمجھنے لگیں گے اور جس فعل مباح سے یہ نوبت آ جائے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کو ترک نہ کریں گے، اس میں جو مفاسد پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی۔ مثلاً جنازہ کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہو تو اس بکروہ کے اقتران سے جنازہ کے ہمراہ جانا ترک نہ کریں گے، خود اس نوحہ کو منع کریں گے کیونکہ وہ ضروری امر ہے، اس عارضی کراہت سے اس کو ترک نہ کیا جائے گا۔

بخلاف قبول دعوت کے کہ وہاں امر مکروہ کے اقتران (شامل ہو جانا) سے خود دعوت ترک کرنا (ضروری) ہے۔ کیونکہ وہ ضروری امر نہیں۔

علامہ شامی نے ان مسئلوں میں بھی فرق کیا ہے۔ ۱۔

جو مباح یا مستحب ذریعہ بنتا ہو کسی معصیت کا وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے: فقہاء اور صوفیہ نے اس قاعدہ کا بہت لحاظ کیا ہے کہ جو مباح یا مستحب مفہمی الی المعصیت ہو جائے (کسی گناہ کا ذریعہ بن جائے) وہ بھی ممنوع ہے۔ جیسے بعض مسکرات میں (مثلاً انیون) قدر قلیل غیر مسکر گوارام نہیں مگر چونکہ مقدار قلیل ذریعہ بن سکتی ہے کثیر مقدار کا جو مسکر ہے اس لئے قلیل سے بھی منع کیا جاتا ہے۔

اسی طرح کلام مباح اور نوم مباح (سونا) اور اختلاط مباح کو گناہ نہیں مگر چونکہ یہ مباحات اکثر مقصی الی الذنب (گناہ کا ذریعہ) بن جاتے ہیں اسی لئے صوفیاء ان سے بھی منع کرتے ہیں۔ ۱

### مباح کے حرام ہونے کی وجہ:

بعض لوگ فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض مباحات کو بھی حرام کر دیا ہے، مگر وہ اس راز سے بے خبر ہیں۔ حقیقت میں فقہاء نے مباح کو حرام نہیں کیا بلکہ مقدمہ حرام کو حرام کہا ہے اور عقلاً یہ قاعدہ مسلم ہے کہ واجب کا مقدمہ (ذریعہ) واجب، اور حرام کا حرام ہے تو وہ مباح جس سے فقہاء منع کرتے ہیں مقدمہ (ذریعہ) حرام ہونے کی حیثیت سے مباح کی فرد ہی نہیں رہا بلکہ اس حیثیت کے لحاظ سے وہ حرام کا فرد بن گیا۔ ۲

### زمانہ اور حیثیات کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں:

اختلاف حیثیات سے احکام کا اختلاف ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حیثیت سے حسن (جائز اور مستحب) اور دوسری حیثیت سے قبیح (اور ممنوع) نماز کے حسن میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ مگر پاخانہ کا تقاضا ہو تو اس وقت نماز مکروہ ہو جاتی ہے

اسی طرح ممکن ہے کہ ایک فعل فی نفسہ مباح ہو مگر دوسری حیثیت سے اس میں قبح آجائے اور وہ حیثیت انشاء الی المصیبت ہے (یعنی گناہ کا ذریعہ بن جانا ہے)۔ ۳  
یہ ممکن ہے کہ کسی امر کو ایک زمانہ میں جائز کہا جائے کیونکہ اس وقت اس میں

۱ التلخیص صفحہ ۲۳۳ و تقلیل الاختلاط۔ بدائع صفحہ ۳۳۔ ۲ التلخیص صفحہ ۲۳۳ و عطا القلیل الاختلاط۔ ۳ التلخیص  
نمبر ۲۳ و عطا القلیل الاختلاط۔

وجوہ کراہت کی نہیں تھیں، اور دوسرے زمانہ میں ناجائز کہہ دیا جائے اس لئے کہ اس وقت کراہت کی علت پیدا ہوگئی، یا ایک مقام پر اجازت دی جائے اور دوسرے ملک میں منع کر دیا جائے۔

مثال:

دیکھو رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو مساجد میں آکر نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی (کیونکہ) اس وقت فتنہ کا احتمال نہ تھا اور صحابہ کرامؓ نے بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ممانعت فرمادی۔ حدیث و فقہ میں اس کے بے شمار نظائر مذکور ہیں۔

### ضروری تنبیہ

کسی مباح کو مفسدہ اور ذریعہ معصیت کی بناء پر مکروہ، حرام کہنا ہر ایک کا کام نہیں! لیکن اس جگہ میں اس پر تنبیہ کئے دینا ہوں کہ کسی مباح کو کسی مصلحت یا مفسدہ کی وجہ سے ناجائز اور حرام کہنے میں ہر کس و نا کس کا اجتہاد معتبر نہیں بلکہ اس کو محقق حکیم ہی سمجھ سکتا ہے کہ کونسا مفسدہ قابل اعتبار ہے جس کی وجہ سے فعل مستحب کو ترک کر دینا چاہئے اور کونسا مفسدہ قابل اعتبار نہیں۔ مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا فیصلہ شارع ہی کر سکتا ہے، یا وہ شخص جو کلام شارع کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو، چنانچہ شریعت میں اس کی وہ نظیریں ہیں ایک تو واقعہ حطیم (کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کرنے کا واقعہ) ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت زینبؓ سے نکاح کرنے کا ہے (جو کہ حضور ﷺ کے منہ بولے بیٹے حضرت زیدؓ کی مطلقہ تھیں) کہ یہاں پہلے واقعہ میں مفسدہ کی رعایت کی گئی اور دوسرے میں نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر مفسدہ قابل اعتبار نہیں اور ہر مصلحت قابل تحصیل نہیں۔ پس کسی مفسدہ کے احتمال سے مباح و مستحب

کو حرام کہنے کا ہر کسی کو حق نہیں۔ ۱۔

کسی شخص کے جائز عمل سے اگر دوسروں کے غلط نظریے کی تائید اور ان کیلئے سند بنتی ہو تو اس شخص کے حق میں بھی وہ عمل ناجائز ہو جاتا ہے: یہ قاعدہ سننے کے قابل ہے کہ کسی شخص کے فعل مباح سے جو حد ضرورت سے ادر نہ ہو (یعنی سنت مؤکدہ، واجب اور فرض نہ ہو) دوسرے شخص کو ضرر پہنچنے کا غالب گمان یا یقین ہو تو وہ فعل اس کے حق میں مباح نہیں رہتا۔ تو اس قاعدہ سے یہ اعمال و افعال اس محفوظ شخص کے حق میں بھی اس وجہ سے کہ دوسرے تقلید کر کے خراب ہوں گے (اس کے لئے بھی) ناجائز ہوں گے۔

اسی شرعی قاعدہ کا حاصل وہ ہے جس کو عقلی قانون میں قومی ہمدردی کہتے ہیں، یعنی ہمدردی کا مقتضی یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسروں کو نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ کیا کوئی باپ جس کے بچے کو حلوا نقصان کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر حلوا کھانا شخص مزے کے لئے پسند کرے گا؟ کیا اس کو خیال نہ ہوگا کہ میری حرص سے شاید بچہ بھی کھائے اور بیماری بڑھ جائے۔

کیا ہر مسلمان کی ہمدردی اسی طرح ضروری نہیں ہے؟ ۲۔

اس حفاظت کی ایسی مثال ہے جیسے آپ کا بچہ بیمار ہے اور اس کو طبیب نے حلوا مضر بتایا ہے تو آپ اس کو ضرر سے بچانے کے لئے یہاں تک اہتمام کریں گے کہ آپ خود بھی حلوا نہیں کھائیں گے، دیکھئے گو آپ کے لئے طبیب نے حلوے کو مضر نہیں کہا لیکن پھر بھی چونکہ بچہ سے آپ کی محبت ہے اس لئے اگر آپ کا جی بھی چاہے گا تب بھی حلوانہ کھائیں گے تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچہ کا بھی کہیں جی نہ لچا جائے

اور کھا کر ضرر میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی حفاظت کے لئے آپ نے اپنی مرغوب بلکہ مفید شے کو اپنے لئے ناجائز کر لیا۔ یہ معنی ہیں فقہاء کے بعض افعال مستحبہ کو مکروہ کہنے کے۔

اب فقہاء حنفیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے فعل کو مکروہ کہتے ہیں جس کی فضیلت حدیث میں ہے، معترضین یہی نہیں سمجھے کہ کیوں مکروہ کہتے ہیں۔ جو میں نے مثال دی ہے اس میں کبھی نہ اعتراض کیا کہ حلوے سے منع تو کیا بچہ کو اور گھر کے ذمہ دار نے منع کر دیا گھر والوں کو بھی۔ ۱۔

قاعدہ:

چونکہ دوسرے مسلمانوں کو ضرر سے بچانا فرض ہے اس لئے اگر خواص کے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدہ میں خرابی پیدا ہوتی ہو تو وہ خواص کے حق میں بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ خواص کو چاہئے کہ وہ اس فعل کو ترک کر دیں۔

حدیث شریف میں قصہ آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حطیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مگر اس خیال سے کہ جدید الاسلام کے قلوب میں خلجان پیدا ہوگا اور خود حطیم کا بناء کے اندر داخل ہونا امر ضروری نہ تھا اس لئے آپ نے اس قصد کو ملتوی فرمادیا اور تصریحاً یہی وجہ ارشاد فرمائی۔ حالانکہ بنا کے اندر داخل فرمادینا مستحسن تھا مگر ضرر عوام کے اندیشہ سے اس کو ترک فرمادیا اور ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ کا قول ہے کہ اہل میت کو اول روز طعام دینا سنت تھا مگر جب لوگ رسم سمجھنے لگے تو متروک اور ممنوع ہو گیا۔ دیکھئے خواص نے بھی عوام کی دین کی حفاظت کے لئے اس کو ترک کر دیا۔ ۲۔

اسی وجہ سے فقہاء نے بہت سے مواقع میں بعض مباحات کو سد الذرائع و حسم المادۃ

الفساد تاکید سے روکا ہے۔ چنانچہ علماء محققین اس زمانہ میں رسوم مرہبہ مولود فاتحہ و اعراس (کرنے والا) اعتقاداً و عملاً محتاط ہی کیوں نہ ہو اسی بناء پر روکتے ہیں کہ دوسرے بے احتیاطی کرنے والوں کے لئے سند ہوگی اور بے احتیاطیوں کے لئے سبب ترویج (اشاعت ہوگا)۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ میں ان تمام خرابیوں سے پاک کر کے مجلس منعقد کرتا ہوں تو اس کو بھی اس حالت اکثر یہ کو دیکھ کر اجازت نہ دی جائے گی۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً ہیضہ اور وبا کے زمانہ میں حاکم ضلع کو یہ معلوم ہوا کہ امرودہ کلڑی سے رطوبت (تری) بڑھے گی اور اس سے مرض پیدا ہوگا تو وہ عام حکم دے دے گا کہ کوئی شخص امرودہ کلڑی نہ کھائے اور نہ اسے فروخت کرے، اور اگر پولیس کسی کے پاس دیکھے گی تو فوراً تلف کر دے گی۔ اس وقت اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں صحیح المزاج ہوں مجھے اجازت دے دی جائے یا کوئی فروخت کرنے والا کہے کہ میں صحیح المزاج لوگوں کے ہاتھ فروخت کروں گا تو کیا ان کو اجازت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ حکم عام رہے گا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی حکم عام رہے گا۔ اس لئے ہم منع کرنے میں مورد الزام نہیں ہو سکتے۔

پسندیدہ اعمال کو بدنامی اور ملامت یا لوگوں کے برا سمجھنے کی وجہ سے، کرنے یا نہ کرنے کا ضابطہ:

ایک اہل علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی فعل شرعی نفسہ تو قبیح نہ ہو بلکہ محمود اور مستحسن ہو لیکن عوام اپنے نزدیک اس کو برا اور مذموم سمجھتے ہوں اور اندیشہ ہو کہ اگر اس فعل کو کیا جائے گا تو عوام بدگمان ہوں گے اور اس کو بدنام کریں گے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ آیا مخلوق کی ملامت اور طعن کی پرواہ نہ کرے اور اس کام کو کر لے

یا ملامت اور بدنامی کے خوف سے اس فعل سے اجتناب کرے؟

حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اسی سوال کا جواب مولانا قاسم صاحب نے ایک تقریر میں فرمادیا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنا حکیم ہی کا کام ہے۔ ایسی صورت میں نہ تو علی الاطلاق اس فعل کو منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی علی الاطلاق اس کی اجازت دے سکتے ہیں بلکہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے۔

چنانچہ اس وقت دو واقعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ دونوں واقعہ ایسے تھے کہ ان کو حضور ﷺ کو نہ کرنا چاہئے تھا کیونکہ عوام الناس کے نزدیک قابل ملامت تھے مگر ایک مقام پر حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی رائے کو باقی رکھا اور دوسرے واقعہ میں آپ کی رائے کے خلاف حکم دیا۔ ایک تو واقعہ ادخال حطیم فی البیت کا ہے کہ قریش نے جنگی خرچ کی وجہ سے حطیم کو بیت اللہ سے خارج کر دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو بیت اللہ میں داخل کرنے کا ارادہ کیا مگر اس خیال سے ملتوی کر دیا کہ اہل مکہ ابھی ابھی اسلام لائے ہیں اگر میں نے کعبہ کو منہدم کیا تو ان کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کعبہ کو منہدم کر کے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو ان کے اسلام میں ضعف پیدا ہوگا۔ اس مقام پر تو حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی رائے مبارک کو باقی رکھا اور اس فعل کو جو کہ ملامت کا ذریعہ ہے اس کے ارتکاب کی اجازت نہیں دی۔

دوسرا واقعہ جہاں ملامت خلق کی پروا نہیں کی گئی وہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح ہے جو خود کلام اللہ میں مذکور ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تو حضور ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ زینب اور ان کے اولیاء کی دلجوئی کی اب صرف یہی ایک صورت ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں مگر آپ اس خیال سے رکتے تھے کہ زید بن حارثہ حضور ﷺ کے حتمی (منہ بولے بیٹے) تھے۔ حتمی کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو جہلاء مشرکین و منافقین لعن طعن کریں گے کہ بہو (بیٹے کی بیوی) سے نکاح کر لیا اور اس طعن کی وجہ سے بہت سے

لوگ اسلام سے رک جائیں گے تو دیکھئے زینبؓ سے نکاح کرنے میں بھی اس مفسدہ کا احتمال تھا جس کا قصہ عظیم میں احتمال تھا۔ مگر حق تعالیٰ نے یہاں مفسدہ کی پروا نہیں کی اور حضور ﷺ کو حکم دیا کہ حضرت زینبؓ سے نکاح کر لیں اور (بدنامی و) طعن کی پروا نہ کریں۔ ان دونوں واقعوں سے معلوم ہوا کہ ہر مفسدہ قابل اعتبار نہیں، اور ہر مصلحت قابل تحصیل نہیں۔ پس کسی مصلحت کے فوت ہونے یا کسی مفسدہ کے پیدا ہونے کے احتمال سے مباح و مستحب کو حرام کہنے کا ہر کسی کو حق نہیں۔ اسی کو مولانا قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کہاں پر خوف و ملامت کی وجہ سے کسی فعل کو ترک کرنا چاہئے اور کہاں نہیں۔ ۱

دونوں واقعوں میں فرق ہے جس کی وجہ سے ایک میں ملامت کے خوف کی رعایت کی گئی اور ایک میں نہیں کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں وہ فرق آ گیا وہ یہ کہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے یہ قاعدہ مستطب ہوتا ہے کہ وہ فعل (خواہ وہ مفضی الی المحصیت ہو یا دیگر مفاسد پر مشتمل ہو اور) جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے (یا مفسدہ کے سبب سے) اس کو ترک نہ کیا جائے گا اور اگر وہ فعل نہ تو واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج ہو تو اس کو نہ کیا جائے گا۔

حضرت زینبؓ کے واقعہ میں جو لوگوں کے بدنام کرنے (اور مفسدہ) کی وجہ سے (نکاح) ترک نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ زید بن حارثہ حضور ﷺ کے متبھی تھے اور اس زمانہ میں عوام الناس حنفی کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے تو عوام کے اس فاسد عقیدہ کی اصلاح کے لئے اس وقت صرف تبلیغ قولی کافی نہ تھی بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کی جائے اور نکاح کرنا تبلیغ فعلی تھا اور تبلیغ واجب فی الدین ہے۔ لہذا یہ نکاح کرنا مقصود فی الدین تھا۔ اس لئے حضور ﷺ نے یہاں



ملاست کی پرواہ نہ کی۔ بخلاف ادخالِ حطیم فی البیت کے کہ حطیم کا کعبہ کے اندر داخل کرنا کوئی شعیب مقصود بالذات نہیں اور نہ ہی دین میں کوئی ضروری فعل تھا بلکہ ایک فعل مستحسن تھا۔ جس پر کوئی ضروری مقصود (بھی) موقوف نہ تھا۔ اس کے داخل ہونے سے کوئی مقصود شرعی فوت ہو گیا۔ (اس لئے یہاں پر بدنامی اور مفسدہ کی رعایت کر لی گئی)۔

(خلاصہ یہ کہ) مقاصد شرعیہ میں تو بدنامی کا کچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی سے بچنا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔

جب یہ تفسیر میرے سمجھ میں آئی تو سارا اخبار دور ہو گیا۔ ۱  
اس کی دوسری نظیر دیکھئے کہ حضور ﷺ نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے حضور ﷺ کو کتنا بدنام کیا۔ مگر کیا حضور ﷺ نے ان کے بدنام کرنے کی وجہ سے توحید کی دعوت ترک کر دی؟ ۲

ایک تیسری نظیر واقعہ معراج ہے کہ حضرت ام ہانی نے آپ کی چادر مبارک کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ لوگوں سے یہ قصہ (معراج) نہ کہئے ورنہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے لیکن حضور ﷺ نے ام ہانی کے مشورہ پر عمل نہ کیا کیونکہ معراج کے واقعہ کا اظہار مقصود فی الدین تھا اور مقصود فی الدین کو ملامت کے خوف سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔

لکھنؤ میں مدح صحابہ کی مجالس کے متعلق حضرت کارشاد اور چند اہم فقہی اصول: روافض کی تبرا گوئی کے مقابلہ میں لکھنؤ کے بعض علماء نے مدح صحابہ کی مجالس جاری کی تھیں جس کے نتیجے میں روافض کی تبرا گوئی اور تیز ہو گئی، اس کے متعلق بعض حضرات نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت نے ان کو جواب لکھا جس کا خلاصہ بطور یادداشت

ایک پرچہ میں لکھا ہوا تھا۔ جس کی نقل یہ ہے:

الجواب: . رَوَى الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَفٍ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّ الْقُرْآنِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ إِى بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا مِنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود قرآن کا جہر اور وہ بھی جماعت کی نماز میں کہ امام صاحب پر واجب ہے۔ اگر سب بن جائے قرآن کے سب و شتم کا تو ایسے وقت اتنے جہر کی ممانعت ہے کہ سب و شتم کرنے والوں کے کان میں آواز پہنچے کیسے ممنوع نہ ہوگا۔ وَيُؤَيِّدُهُ وَيُزِيلُ بَعْضُ الْأَشْكَالِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ مَا فِي رُوحِ الْمَعْنَى تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْآيَةَ واستدل بالآية ان الطاعة اذا ادت الى معصية راجعة وجب تركها فان ما يؤدى الى الشر شر وهذا بخلاف الطاعة فى موضع فيه معصية لا يمكن دفعها وكثيرا ما يشبهان الخ. ۲

ترجمہ:- اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب کوئی طاعت معصیت راجحہ کا سبب بن جائے تو اس طاعت کو بھی چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے کیونکہ جو چیز کسی شر کا سبب مودى بنے وہ بھی شر ہے اور یہ بات اس سے الگ ہے کہ کسی ایسی جگہ میں جہاں معصیت ہو رہی ہو اور اس کے دفع کرنے پر قدرت نہ ہو وہاں کوئی طاعت ادا کی جائے اور بسا اوقات لوگوں پر یہ دونوں چیزیں مشتبه ہو جاتی ہیں۔ دونوں کا ایک ہی حکم سمجھ

لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سیرینؒ اس جنازہ میں شریک نہ ہوئے جس میں مرد عورتیں مخلوط شریک تھے اور حضرت حسنؓ نے اس کی مخالفت فرمائی اور کہا کہ ہم معصیت کی موجودگی کی وجہ سے طاعت سے محروم ہو جائیں گے اور یہ ہمارے دین کی بربادی کا آسان راستہ ہوگا۔

اور شہاب مقدسی سے نقل کیا ہے کہ ہمارے فقہاء کے نزدیک یہ حکم ہے کہ کسی طاعت مطلوبہ کو کسی بدعت کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا جیسے کئی ولیمہ کی دعوت قبول نہ کرنا اس بناء پر کہ وہاں لہو و لعب ہے، یا جنازہ میں شرکت نہ کرنا اس وجہ سے کہ وہاں کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہے، بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ ولیمہ اور جنازہ میں شریک ہو اور جو گناہ کا کام ہو رہا ہو اس کو روکے۔ اگر روکنے پر قدرت ہو ورنہ صبر کرے اور یہ جب ہے کہ ایسا کرنے والا قوم کا مقتدانہ ہو اور اگر مقتدا ہے تو اس کو شرکت نہیں کرنی چاہئے۔<sup>۱</sup> ولا یتوک اتباعھا لاجلھا الخ۔

ترجمہ:- جنازہ کے پیچھے چلنا اس بناء پر نہیں چھوڑنا چاہئے کہ وہاں نوحہ کرنے والی عورت ہے کیونکہ اقرار بدعت کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑا جاسکتا اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ولیمہ کی شرکت جب کہ وہاں کوئی بدعت ہو ترک کر دی جاتی ہے کیونکہ اگر ناسخ (نوحہ کرنے والی عورت) کی وجہ سے جنازہ کی شرکت چھوڑ دی گئی تو جنازوں کا انتظام درست نہ رہے گا۔ بخلاف ولیمہ کے کہ ایک نے نہ کھایا تو دوسرے کھانے والے موجود ہیں۔<sup>۲</sup>

## الباب السادس

### سنت کی تعریف:

فرمایا کہ سنت اس کو نہیں کہتے کہ جو حضور ﷺ سے محض ثابت ہو بلکہ سنت اس کو کہتے ہیں جو کہ حضور ﷺ کی عادت غالبہ ہو، پھر وہ غلبہ خواہ حکمی ہو یا حسی ہو جیسے تراویح کو سنت موكده کہا جاتا ہے اور تاكد دوام پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ اس پر دوام حسی نہیں ہوا مگر حضور اکرم ﷺ کے خاص عارض یعنی خوف فریضت کا عذر ظاہر فرمادینے سے دوام کا مطلوب ہونا معلوم ہوا اور یہ دوام حکمی ہے۔

حضور ﷺ نے کسی امر کا منقول ہونا سنت ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ جو عادت غالبہ ہو وہ سنت ہے اور جو کسی عارض کی وجہ سے صادر ہو گیا ہو وہ سنت نہیں ہے۔

### اقسام سنت:

سنت مطلقہ وہ ہے جس کو حضور ﷺ نے بطور عبادت کیا ہے ورنہ سنن زوائد سے ہوگا۔ مثلاً حضور ﷺ کا بال و کھنا بطور عادت کے ہے نہ کہ بطور عبادت کے اس لئے اولی ہونے میں تو شبہ نہیں مگر اس کے خلاف کو سنت نہ کہیں گے۔

سنت دو قسم است، سنت عبادت و سنت عادت۔ مطلق لفظ سنت بر قسم اول اطلاق کردہ می شود و استحقاق وعدہ ثواب و ترغیب بر آں ہمیں قسم منوط است و قسم ثانی ہم خالی از برکت و دلیل محبت بودن نیست۔ لیکن مقصود جزء دین نہ باشد و اگر ای قسم محفل امر ہے۔ از مقاصد دین در حق شخصے شود اور از آن بازداشته شود۔

ترجمہ: سنت دو قسم پر ہے (۱) سنت عبادت (۲) سنت عادت۔ لفظ سنت جو مطلق بولا جاتا ہے تو پہلی قسم مراد ہوتی ہے وعدہ ثواب اور ترغیب کا دار و مدار بھی اسی پہلی قسم پر ہے دوسری قسم بھی برکت اور دلیل محبت ہونے سے خالی نہیں ہے تاہم دین کا جزء نہیں ہے لہذا یہ دوسری قسم اگر کسی کے حق میں امر دین میں محفل ہو تو اسکو اس سنت سے روکا جائے گا۔ (ابن شائق عفا اللہ عنہ)

## سنن زوائد و مستحبات کا حکم:

سنن زوائد و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جما ہوا ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، اس لئے اس کے ناغہ ہونے کو بہل بات سمجھتے ہیں، حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زوائد اور مستحبات کا یہ حکم قبل شروع کے ہے اور شروع کرنے کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے اور ایک عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں۔ وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنایا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواظبت کر لی جائے اب اس کا ناغہ اور مواظبت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے اور اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا یا عبد اللہ لا تمکن مثل فلان کان یقوم من اللیل ثم ترکہ ترجمہ: ”اے عبد اللہ اس شخص کی طرح نہ بنو کہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس عادت کو چھوڑ دیا“ اسمیں حضور ﷺ نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم و مکروہ ہے۔ (قلت وفيه استحباب اللوام علی ما اعتاده المؤمن الخیر من غیر تفریط و استنبط منه کراهة قطع العبادۃ وان لم تکن واجبة)۔

## احیاء سنت کی تعریف:

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی محمد یعقوب کی معرفت مولوی محمد اسماعیل صاحب کو یہ کہلایا کہ تم رفع یدین چھوڑ دو اس سے خواہ مخواہ فتنہ ہوگا۔ مولوی اسماعیل نے جواب دیا کہ عوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہوں گے من تمسک بستی عند فساد امتی فله اجر مائة شهید ترجمہ: ”جس نے امت کے بگاڑ کے زمانہ میں ایک سنت کو زندہ کیا اسکو شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا“ اس کو سن کر شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا ہم تو سمجھتے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک حدیث

کے معنی بھی نہیں سمجھا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہو اور  
ماخوذ فیہ میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے۔ کیونکہ جس طرح  
رفع یدین سنت ہے اسی طرح ارسال بھی سنت ہے۔

### سنت و بدعت کی بہترین تشریح:

جاننا چاہئے کہ خیر القرون کے بعد جو چیزیں ایجاد کی گئیں ہیں ان کی دو قسمیں  
ہیں۔ ایک تو وہ کہ ان کا سبب داعی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ کسی مامور بہ کی  
ہیں۔ (یعنی شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف ہے) کہ ان کے بغیر اس مامور بہ پر عمل  
نہیں ہو سکتا جیسے کتب دیدیہ کی تصنیف و تدوین، مدرسوں اور خانقاہوں کی بنا۔ کہ حضور  
ﷺ کے زمانہ میں ان میں سے کوئی شے نہ تھی اور سب داعی ان کا جدید ہے اور نیز یہ  
چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بہ کی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے  
ذمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھئے کہ زمانہ خیریت (خیر القرون) میں دین کی  
حفاظت کے لئے ان وسائل محدثہ (جدید وسائل) میں سے کسی شے کی ضرورت نہ  
تھی۔ تعلق مع اللہ یا بالفظ دیگر نسبت سلسلہ سے حضرت نبوت کی برکت سے سب  
مشرف تھے، قوت حافظہ اس قدر قوی تھا کہ جو کچھ سنتے وہ سب نقش کا لہجر ہو جاتا تھا، فہم  
ایسی عالی پائی جلتی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے  
تقریریں کی جائیں۔ ورع و تدوین بھی غالب تھا۔

اس زمانہ کے بعد دوسرا زمانہ آیا، غفلتیں بڑھ گئیں، قوی کمزور ہو گئے اور اہل ہوا  
اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا، تدین مغلوب ہونے لگا، پس علماء امت کو قوی اندیشہ دین  
کے ضائع ہو جانے کا ہوا، پس ضرورت واقع ہوئی کہ دین کی تکمیل اجزاء (اس کے تمام

شعبوں کی (تدوین کی جائے۔ چنانچہ کتب دینیہ، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقائد میں کتابیں تصنیف ہوئیں اور ان کی تدریس کے لئے مدارس تعمیر کئے گئے۔ اسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت و ابقاء کے لئے عام رغبت نہ رہنے کی وجہ سے مشائخ نے خانقاہیں بنائیں اس لئے کہ بغیر ان چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔

پس یہ چیزیں وہ ہیں کہ سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیر القرون میں نہ تھا اور یہ چیزیں مامورہ یعنی حفاظت دین کا موقوف علیہ ہیں۔ پس یہ اعمال گویا بدعت ہیں لیکن واقع میں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ مقدمۃ الواجب واجب۔ واجب ہیں۔ اور دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے۔ جیسے میلاد مردوحہ، تیجہ، دسواں، چہلم وغیرہ اسن البدعات، ان کا سبب قدیم ہے۔ مثلاً میلاد کے منعقد کرنے کا سبب فرح علی الولادة النبویہ (حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی) ہے۔ اور یہ سبب حضور ﷺ کے زمانہ میں بھی تھا لیکن حضور ﷺ یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ مجالس منعقد نہیں کیں۔ کیا نعوذ باللہ صحابہؓ کا فہم یہاں تک نہیں پہنچا۔ اگر اس کا سبب اس وقت نہ ہوتا تو البتہ یہ کہہ سکتے تھے کہ منشاء ان کا موجود نہ تھا۔ لیکن جب کہ باعث اور بنا اور مدار موجود تھا پھر کیا وجہ ہے کہ نہ حضور ﷺ نے کہیں مجلس میلاد منعقد کی اور نہ صحابہؓ نے لہذا ایسی شے کا حکم یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ صورت بھی اور معنی بھی۔ اور حدیث من احدث فی امرنا هذا مالیس منه ترجمہ: ”جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔“ یعنی اس بدعت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ میں داخل ہو کر واجب الرد ہیں اور پہلی قسم مامورہ میں داخل ہو کر مقبول ہے۔

یہ قاعدہ کلیہ ہے بدعت اور سنت کے پہچاننے کا، اس سے تمام جزئیات کا حکم مستنبط ہو سکتا ہے۔ ۱۔

## سنت و بدعت کا فرق اور اس کی پہچان کا طریقہ:

① ان دو قسموں میں ایک اور فرق عجیب ہے کہ پہلی قسم کے تجویز کرنے والے خواص یعنی علماء ہوتے ہیں اور ان میں عوام تصرف نہیں کرتے اور دوسری قسم کے تجویز کرنے والے عوام کا لانعام ہوتے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ تصرف کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ مولود شریف کی مجلس کو ایک بادشاہ نے ایجاد کیا ہے۔ اس کا شمار عوام میں ہے اور عوام ہی اب تک کر رہے ہیں۔

② ایک پہچان بدعت کی بتلائے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث و اجماع اور قیاس چاروں میں سے کسی سے بھی ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اس پہچان کے بعد دیکھ لیجئے۔ عرس کرنا، فاتحہ دلانا، کسی دن تاریخ کی تخصیص و تعیین کو ضروری سمجھ کر ایصالِ ثواب کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں کسی اصل سے ثابت ہیں؟ اور ان کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے یا نہیں۔

③ بدعت کے نتیجے ہونے کی ایک یہ پہچان ہے کہ دیکھو اس کی طرف میلان اور اس کا اہتمام علماء کو زیادہ ہے یا عوام کو۔ بدعتی مقتدا اپنا ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ ہاں کھانے کو موجود ہو جاتے ہیں۔ جہلاء کو اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ خود علماء بدعت کے قلوب میں بدعت کی وقعت نہیں۔

اور جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہم خود بھی کرتے ہیں چاہے خرچ کرنا پڑے، جیسے قربانی۔

پھر عوام میں بھی دیکھنا چاہئے کہ دیندار کتنے کرتے ہیں اور بددین کتنے کرتے ہیں۔ بعض صالح ہوتے ہیں اور بہت کم کرتے ہیں اور اکثر فاسق و فاجر رشوت خور ہوتے ہیں۔



## احداث للدين واحداث في الدين:

بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کرے۔ اگر معالجہ سمجھ کر اختیار کرے تو بدعت کیسے ہو سکتا۔ پس ایک احداث للدين ہے اور ایک احداث في الدين ہے۔ احداث للدين معنی سنت ہے اور احداث في الدين بدعت ہے۔ (ایک صاحب نے جا کر) اعتراض کے طور پر لکھا کہ تم نے جو اوقات کا انضباط کیا ہے خیر القرون میں یہ انضباط نہ تھا اس لئے یہ سب بدعت ہے۔

اگر بدعت کے یہ معنی ہیں جو ان حضرات نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے تو خیر القرون میں تو ان کا بھی وجود نہ تھا۔ پس یہ بھی مجسم بدعت ہوئے۔ ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں۔

یہ انضباط کسی کے اعتقاد میں عبادت تو نہیں اس لئے ان کا خیر القرون میں نہ ہونا اور اب ہونا بدعت کو مستلزم نہیں ہے۔

خیر القرون میں ہونے کی ضرورت اس وقت ہے جب کہ اس فعل کو من حیث العبادۃ کیا جائے اور اگر من حیث الانتظام کیا جائے وہ بدعت نہیں۔ ایک حدیث حیاة المسلمین میں شامل ترمذی سے درج کی گئی ہے۔ اس سے نقلاً بھی معمول نبوی ﷺ کا انتظام معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث روح ہشتم میں ہے۔

## غیر مشروع اور مندوب کا اس کی حد سے زائد اہتمام کرنا تخصیص و تعیین کرنا بدعت میں داخل ہے

حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کسی ختنہ میں بلائے گئے۔ آپ نے انکار فرمایا۔ کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں ہم لوگ ختنہ میں نہیں جاتے تھے اور نہ اس کے لئے بلائے جاتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس کام کے لئے لوگوں کو دعوت دینا سنت سے ثابت نہیں اس کے لئے بلانے کو صحابی نے ناپسند فرمایا اور جانے سے انکار کیا۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ بلانا دلیل ہے اس امر کے اہتمام کی تو شریعت نے جس امر کا اہتمام نہیں کیا اس کا اہتمام کرنا دین میں ایجاد کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عمرؓ نے جب لوگوں کو مسجد میں چاشت کی نماز کے لئے جمع دیکھا تو برائے انکار اس کو بدعت فرمایا۔ اسی بناء پر فقہاء نے جماعت نافلہ کو مکروہ فرمایا ہے۔ کسی اور امر غیر ضروری کو اپنے عقیدہ میں ضروری اور موکد سمجھ لینا یا عمل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح کرنا کہ فرائض و واجبات کے مثل یا ان سے زیادہ اس کا اہتمام ہو اور اس کے ترک کو مذموم اور تارک کو قابل ملامت و شناعت جانتا ہو یہ دونوں امر مذموم ہیں کیونکہ اس میں حکم شرعی کو توڑ دینا ہے اور تقیید و تعیین و تخصیص و التزام و تحدید وغیرہ اسی قاعدہ کے اور مسئلہ کے عنوانات و تعبیرات ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ کی حدوں سے پس ایسے لوگ ظالم ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں ہر شخص کو لازم ہے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے وہ یہ کہ فرض نماز کے سلام کے بعد وہی

طرف سے پھرنے کو ضروری سمجھنے لگے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بسا اوقات بائیں جانب سے پھرتے دیکھا ہے۔ ۱۔

طیبی شارح مشکوٰۃ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص کسی امر مستحب پر اصرار کرے اور اس کو عزیمت اور ضروری قرار دے لے اور کبھی رخصت پر یعنی اس کی دوسری شق مقابل پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص سے شیطان اپنا حصہ گمراہ کرنے کا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کا تو کیا کہنا جو کسی بدعت یا ابر مکر یعنی خلاف شرع عقیدہ یا عمل پر اصرار کرتا ہے۔

صاحب مجمع نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نکلی کہ امر مندوب بھی مکروہ ہوتا ہے جب یہ اندیشہ ہو کہ یہ اپنے رتبہ سے بڑھ جائے گا۔ اسی بناء پر فقہاء حنفیہ نے نمازوں میں سورت مقرر فرمانے کو مکروہ فرمایا ہے۔ خواہ اعتقاداً یا بندی ہو یا عملاً۔ فتح القدیر نے اس تعلیم کی تصریح کر دی ہے۔ ۲۔

**مستحب کیسے بدعت بن جاتا ہے:**

میں مستحب کو بدعت نہیں کہتا۔ اس کو ضروری سمجھنے کو بدعت کہتا ہوں۔ اگر مستحب کو کوئی واجب سمجھ جائے تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور لازم، ضروری واجب کے ایک ہی معنی ہیں۔ ۳۔

غیر لازم کو لازم سمجھنا بدعت ضلالت ہے اور اس کے تارک یا مانع پر ملامت کرنا اس کے بدعت ہونے کو اور زیادہ مؤکد کر دیتا ہے۔ ۴۔

شیرینی کو لازمی سمجھ کا بائٹنا یہ بھی بدعت ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب فعل سے اگر عقیدہ میں فساد ہو جائے تو اس مستحب کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ۵۔

کیا یہ بدعت نہیں کہ غیر واجب کو واجب سمجھا جاتا ہے کیا یہ بدعت کی تعریف میں داخل نہیں؟ ۳

## سنت و بدعت کی چار چار قسمیں اور بدعت حسنہ و سننیہ، حقیقیہ و صوریہ کی تفصیل

فی ردالمحتار سنن الوضوء ان كان مما واطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدون من بعده سنة والا فمندوب ونقل. في الدر المختار بحث النية والتلفظ عند الارادة بها مستحب هو المختار وقيل سنة يعني احبه السلف او سنة علمانا اذا لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين الخ

في الدر المختار احكام الامامة ومبتدع اي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا المعاندة بل بنوع شبهة في ردالمحتار قوله صاحب بدعة اي محرمة والا فقد تكون واجبة كنصب الادلة على اهل الفرق الضالة..... ومندوبة كاحداث نحور باط و مدرسة و مكروة كزخرفة المساجد ومباحة كالتوسع بلذيد المأكل والمشارب والنياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوي عن تهذيب النوى ومثله في الطريقة المحمدية للبركوي.

ان عبارات سے امور ذیل مستفاد ہوئے۔

اول سنت کے کئی معنی ہیں:

۱..... منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

۲..... منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين كما ذكر في عبارة واطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدون.

۴:..... منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة والتابعين كما في العبارة اذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين.

۴:..... منقول عن العلماء كما في عبارة او سنة علماء نافي تفسير السنة وفي عبارة انه طريقة حسنة لهم اي العلماء.

(اس عبارت سے) بدعت کے بھی کئی معنی ہوں گے۔ یعنی سنت کے ہر معنی کے مقابل۔

۱:..... غیر منقول عن الرسول.

۲:..... غیر منقول عن الرسول و الخلفاء.

۳:..... غیر منقول عن الرسول او الصحابة والتابعين.

۴:..... غیر منقول عن العلماء۔

حقیقت میں سنت و بدعت کی صرف ایک ہی قسم ہے:

یہ تعدد محض ظاہری ہے ورنہ حقیقت میں سنت کے معنی ہیں ہسی طریقیۃ المسلموۃ فی الدین كما هو مذکور بعد العبارة الاولى۔ اور یہ سب معانی سنت کو شامل اور بدعت کے معنی ہیں اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا للمعاندة بل بنوع شبهة (نصوص کے خلاف عمل اگر شبہ سے ہے تو بدعت ہے ورنہ فسق و معصیت بلا شبہ ہے)۔ یا بعنوان دیگر ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من علم، او عمل، او حال الخ کذا فی الدر المختار وهذا المعنى الحقيقي للبدعة مراد فی قوله صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا الحدیث (کذا فی رد المحتار فی بحث الامامة) پس سنت حقیقیہ و بدعت حقیقیہ جمع نہیں ہو سکیں۔ لیکن بدعت صورت یہ سنت حقیقیہ کے

ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تلفظ بدیۃ الصلوٰۃ کو سنت کہا گیا ہے۔ بعض معانی کے اعتبار سے کہ وہ معنی سنت حقیقیہ کی ایک قسم ہے اور بدعت بھی کہا گیا ہے۔ بعض معانی سنت کے مقابلہ کے اعتبار سے۔ اسی لئے اس کو بدعت مان کر حسن کہا گیا ہے جو صریح ہے جو از اجتماع بعض اقسام بدعت مع السنۃ الحقیقہ میں اور یہ اجتماع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول نعمت البدعۃ سے بھی متاثر ہے۔ جیسے جزئی حقیقی تو کلی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی مگر جزئی اضافی کلی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بدعت حسنة کی جو بعض اکابر نے نفی کی ہے یہ نزاع لفظی ہے (کیونکہ) ثانی (انکار کرنے والے نے) اپنی اصطلاح میں بدعت کو حقیقی کے ساتھ خاص کیا ہے اور مثبت نے بدعت کو عام لیا ہے۔

اور یہی راز ہے کہ صحابہؓ کو تو کسی امر کے منقول عن الرسول ﷺ نہ ہونے سے اس کے سنت ہونے میں تردد ہوتا تھا اور بعد کے حضرات کو صحابہ یا تابعین سے منقول نہ ہونے سے تردد ہوتا تھا وکذا۔ حتیٰ کہ ہمارے لئے وہ چیز بھی سنت ہوگی جو علماء راجحین نے اصول شرع سے سمجھا ہے۔ اس سے تعدد و معانی سنت کو تقویت ہوگی۔!

**سنن عادیہ و سنن عبادیہ کے حدود سنن عادیہ کا حکم:**

ایک صاحب نے استفسار کیا کہ کیا بکریاں پالنا سنت ہے؟ فرمایا جی ہاں سنت ہے۔ لیکن سنت عادیہ ہے سنت عبادت نہیں اور اصل مقصود سنت عبادت ہے۔ البتہ سنت عادیہ میں اگر منشاء اس کا محبت ہے تو اس میں ثواب اور برکت ہے۔ اس میں غلو یعنی سنت عبادت کا سا اہتمام اور معاملہ نہ کیا جائے۔ بعض اس کی تحقیق میں رات دن رہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا عصا مبارک کتنا بڑا تھا اور عمامہ شریف کتنا بڑا تھا۔ یوں کوئی عاشق ان باتوں کی تحقیق کرے وہ اور بات ہے۔ اس کا منشاء تو محبت ہے۔ باقی

ان کے پیچھے پڑ کر اکثر لوگ ضروریات دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھنے لگتے ہیں۔ سو اس میں اگر ایسا غلو ہو تو دین سے بیکار ہو جائے گا۔ ہر شے اپنی حد پر رہنا چاہئے۔

سنت عبادت میں یہ قانون ہے کہ اگر اس میں عوام کے لئے کسی مفسدہ کا احتمال غالب ہو تو مستحب کو چھوڑ دینا بھی واجب ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کا معمول جمعہ کے روز فجر میں آلم تزیل اور سورہ دھر پڑھنے کا تھا۔ مگر حضرت امام ابوحنیفہ نے اس کو مکروہ قرار دیا، اسی واسطے تو کم فہم لوگوں نے حضرت امام پر مخالف سنت ہونے کا الزام لگایا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ نے (بجائے گیہوں کے) جو عادت کھایا ہے یا عبادت؟ ظاہر ہے کہ عبادت نہیں کھایا۔ پھر عادت نبویہ کا اتباع شریعت میں واجب نہیں۔ نہ ان کا ترک میں کوئی گناہ ہے۔

عادات میں مزاج وغیرہ کے لحاظ کرنے کا اختیار ہے۔ حضور ﷺ کی بعض عادات ایسی ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے شریعت نے عادت نبویہ کا اتباع واجب نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی کو ہمت ہو اور عادت پر عمل کرنا نصیب ہو جائے تو اس کی فضیلت میں شک نہیں مگر اس کو دوسروں پر طعن کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔

اسوۂ نبی کی دو صورتیں قولی و عملی:

قرآن شریف میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنہ جس کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ذات مبارک میں ایک اچھا نمونہ دیا ہے۔ نمونہ دینے سے کیا غرض ہوتی ہے۔ یہی کہ اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو۔

پھر خداوندی لطف یہ ہے کہ اس نمونہ میں بھی کچھ تنگی نہ تھی۔ دو قسم کا نمونہ دیا تھا۔ فعلی اور قولی اور یہ محض رحمت ہے کہ اتنی وسعت کر دی کہ کچھ بھی دقت باقی نہ رہی۔

اشکال: جناب رسول ﷺ نے جو نمونے ہم کو دکھائے ہیں ہم کو بالکل ان پر عمل کرنا چاہئے۔ مثلاً حضور ﷺ نے اکثر جو کی روٹی کھائی ہے اور دنیا میں بہت تنگی کے ساتھ گذر کی نہ رنگ برنگ کھانے کھائے نہ مکان سجائے نہ درہم دینا رکھے اور ہم نہ جو کھاتے ہیں نہ کسی قسم کی تنگی کرتے ہیں۔ کپڑا بھی اچھا پہنتے ہیں۔ مکان میں بھی تکلف کرتے ہیں، روپے پیسے بھی جمع رکھتے ہیں اور ان سب باتوں کو علماء جواز کہتے ہیں تو یہ نمونہ کی تطبیق نہ ہوئی۔

جواب: جواب یہ ہے کہ نمونہ دو قسم کا دیا گیا ہے۔ قولی و فعلی۔ فعلی تو ایک خاص ہیئت ہے اور قولی ان حدود کی تعیین شرعیہ ہے جن سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ مگر خود ان کے اندر وسعت بہت ہے۔ ہم کو اعمال شرعیہ میں حدود بتلا دیئے گئے ہیں کہ ان سے باہر نہ ہوں اور ان حدود کے اندر جتنی گنجائش ہو عمل کر لیں..... یہ واجب اور ضروری ہے۔ عشاق نے تو نمونہ فعلی کی تطبیق کر کے دکھادی، وہی کھایا، وہی پیا، اسی طرح دنیا گذاردی مگر خیر ہم جیسوں کے لئے گنجائش ہے کہ ان حدود تک اپنی خواہشوں کو پورا کریں مگر ان سے آگے نہ بڑھئے۔ ہر کام میں خیال رکھئے کہ حدود شرعی کہاں تک ہیں۔ ان کے اندر بھی آپ رہیں گے تو نمونہ میں عامل کہلا سکیں گے۔ ۱۔



سنن عادیہ و عبادیہ کے قابل ترک اور ناجائز ہونے کا ضابطہ:  
 سنن عادیہ (مثلاً) سادے کپڑے اور جو کی روٹی یا اس کی مثل جو سنن عادیہ  
 میں سے ہے اگر کہیں ان کی وجہ سے مقصود فوت ہونے لگتا ہے ان کو چھڑا دیا جاتا ہے۔  
 کیونکہ سنن عادیہ کوئی مقصود نہیں ہیں۔

بلکہ بعض موقع پر سنن عبادت تک چھڑا دی جاتی ہے۔ اگر ان سے ضرر ہوتا ہو۔  
 مثلاً یہ سنت ہے کہ تہجد کی آٹھ رکعت پڑھے۔ اب اگر کسی کو نیند زیادہ آتی ہے اور وہ تہجد  
 کے واسطے زیادہ دیر تک جاگا اور پھر ایسا سویا کہ صبح کی جماعت فوت ہوگئی تو اس سے کہا  
 جائے گا کہ تم ذر رکعت پڑھ کر جلد سو رہو تا کہ صبح کی جماعت نہ جائے۔ اگرچہ آٹھ  
 رکعت سنن عبادت میں سے ہے مگر جب اس سے بڑھ کر مقصود فوت ہوتا ہو تو اس کو  
 چھڑا دیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بابت اس کے مجموعی حالات سے ثابت ہو جائے  
 کہ حج کے راستہ میں اس سے نماز میں پابندی نہ ہو سکے گی تو اس کو حج سے منع کیا جاتا  
 ہے۔ اگر کسی شخص کو ایک نماز کے بھی قضا ہونے کا گمان غالب ہو تو اس کو حج نفل کرنا  
 جائز نہیں۔ جنہیں حج سے دینی ضرر ہوتا ہے کہ نقل کو تادا کرتے ہیں اور فرض کو چھوڑ  
 بیٹھتے ہیں۔ سونپا ہر ہے کہ ایسوں کو حج سے قرب نہیں ہوتا بلکہ اور بعد ہو جاتا ہے۔

(دوسری مثال) مثلاً ہم نے جو کی روٹی کھائی اور کھا کر پیٹ میں درد ہوا تو جو  
 ہم کو محبت تھی جناب رسول اللہ ﷺ کی سنن سے وہ محبت اس حالت میں باقی نہ رہے گی  
 بلکہ وحشت ہوگی اور خطرہ آئے گا کہ اچھا سنت پر عمل کیا کہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ آج  
 متشددین ہی کی بدولت شریعت سے لوگوں کو نفرت ہوگئی۔

غرض یہ کہ سنن عادیہ اور سنن عبادت ایسے شخص کے واسطے ناجائز ہیں جس کا  
 نتیجہ یہ ہو کہ کوئی دینی ضرر پہنچ جائے۔

## اتباع سنت کی دو صورتیں:

حضور ﷺ کے افعال و رسوم کے ہیں۔ ایک عبادات دوسرے عادات۔ اول میں اتباع مطلوب ہے، دوسرے میں نہیں۔ اگر کوئی اس میں بھی اتباع کرے تو مستحب اور محبت کی دلیل ہے۔

اتباع کی ایک تو صورت ہے اور ایک حقیقت۔ حکم بعینہ بجالانا، بلا لحاظ علت کے، اتباع کی صورت ہے اور اس کے سبب اور علت کی رعایت کے ساتھ اس پر عمل کرنا اتباع کی حقیقت ہے۔

اور اتباع کی دو قسمیں صحابہ میں بھی پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے غزوہ بنی قریظہ میں صحابہ کی ایک جماعت کو جب روانہ کیا تو فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا۔ اتفاق سے باوجود کوشش کے حضرات صحابہ عصر سے پہلے وہاں نہ پہنچ سکے بلکہ راستے ہی میں عصر کا وقت ہو گیا تو صحابہ میں دو فریق ہو گئے۔ بعض نے وقت پر ہی نماز پڑھی اور یہ کہا کہ حضور کا مقصود یہ تھا کہ عصر کے وقت سے پہلے ہم وہاں پہنچیں اور یہ مقصود نہ تھا کہ باوجود راستہ میں وقت ہو جانے کے نماز نہ پڑھی جائے اور بعض نے کہا کہ ہم کو تو حضور ﷺ کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں ہی جا کر نماز پڑھی اور راستہ میں نہیں پڑھی۔

حضور ﷺ کو یہ قصہ معلوم ہوا تو دونوں فریق کی تصویب فرمائی۔ اس واقعہ میں پہلا فریق حقیقت اتباع پر تھا اور دوسرا صورت اتباع پر۔

ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو ایک شخص پر حد زنا جاری کرنے کو بھیجا تو انہوں نے اس شخص کو غسل کرتے ہوئے محبوب الذکر دیکھا تو اس کو حد نہیں لگائی اور حضور ﷺ سے آ کر یہ واقعہ ذکر کر دیا۔ یہ حقیقت میں اتباع تھی اگرچہ صورت میں اتباع نہ تھی۔

## بدعت حسنہ و سنیہ کی تعریف:

قاعدہ کلیہ اس بات میں یہ ہے کہ جو امر کلیاً یا جزئیاً دین میں نہ ہو اس کو کسی شبہ سے جزء دین علماء و عملاً بنا لینا بوجہ مزاحمت احکام شرعیہ کے بدعت ہے۔ دلیل اس کی حدیث صحیح ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہو رد۔ کلمہ من اور فی اس مدعا پر صاف دلالت کر رہے ہیں اور حقیقی بدعت ہمیشہ سنیہ ہی ہوگی۔ اور بدعت حسنہ صوری بدعت ہے۔ حقیقتہ بوجہ کسی کلیہ میں داخل ہونے کے سنت ہے۔ پس تقسیم بدعت الی الحسنہ و السنیہ کا اثبات اور نفع محض نزاع لفظی ہے کہ اثبات بناء بر صورت کے ہے اور فی بنا بر حقیقت کے ولا مشاہدہ فی الاصلاح۔ ۱۔

## فصل نمبر ۲:..... التزام مالا یلزم کی تعریف

دوام کو منع نہیں کیا جاتا۔ التزام اعتقادی یا عملی کو منع کیا جاتا ہے۔ التزام اعتقادی یہ کہ اس کو ضروری سمجھے اور التزام عملی یہ کہ اس کے ترک پر ملامت کریں۔ ۲۔ التزام مالا یلزم کی تعریف اس کے ترجمہ سے ظاہر ہے۔ البتہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر اس کو اعتقاد دین سمجھا جاتا ہو تو وہ فحیح ہے اور اگر دین نہیں سمجھا جاتا مگر پابندی ایسی کی جاتی ہے جیسے ضروریات دین کی تو وہ بھی فحیح ہے گو قسم اول کے برابر فحیح نہیں جیسے ریا کی مذمت نصوص میں آئی ہے۔

اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعمال دین میں یہ فحیح ہے دوسرے اعمال دنیا میں فحیح ہے۔ جس میں یہ وعیدیں ہیں۔ من رای رای اللہ بہ و من سمع سمع اللہ بہ آیا ہے۔ من لبس ثوب شہرة البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامۃ ترجمہ: ”ارشاد فرمایا کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا (یعنی شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنا) تو اللہ تعالیٰ اسکو قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائیں گے“ اور جن مامور مباح پر دوام ہے وہ قطعاً اس میں داخل نہ ہوں گے۔

غایت مافی الباب اس کی وہ قسم جو دین ہونے کے اعتقاد سے کیا جائے زیادہ  
 قبح ہے اور جس کو دنیا سمجھ کر کیا جائے وہ اس درجہ کا قبیح نہیں مگر التزام دونوں میں  
 مشترک ہے۔ و نظیرہ الریابقسیمیۃ۔  
 التزام مالایلیزم کی پہل تعبیر یہ ہے کہ غیر ضروری کو ضروری سمجھنا۔  
 لزوم عملی تکرار و کثرت سے ہوتا ہے۔ ۳

### التزام مالایلیزم کے ممنوع ہونے کی دلیل:

معنون اس کا کتاب و سنت و فقہ سب میں موجود ہے۔ اما الكتاب فقوله  
 تعالیٰ لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا مع ضم سبب  
 النزول اليه. واما السنة فحديث ابن مسعود رضى الله عنه يروى حقاً  
 ان لا ينصرف الا عن يمينه اما الفقه فحيث ذكروا كراهة تعيين  
 السورة والله واعلم. ۴

### التزام اور دوام کا فرق:

دوام اور چیز ہے التزام اور چیز ہے، دوام میں تمام عمر میں اعتقاد یا معاملہ لزوم کا  
 نہیں ہوتا۔ التزام میں اعتقاد یا معاملہ کا لزوم یعنی ایہام یا اصرار ہوتا ہے جس کی  
 علامت یہ ہے کہ تارک پر طامت کرتا ہے ورنہ احادیث دوام بے معنی ہو جائیں گی۔ ۵

### دوام کی تعریف:

سمجھ لیجئے کہ دوام کی تفسیر میں جو ہر وقت کا مفہوم ہے یہ استغراق ہر چیز میں جدا  
 ہے۔ پس ہر چیز کا دوام جدا جدا ہوا بعض امور کا دوام تو اسی طرح ہوتا ہے کسی

۱ امداد الفتاویٰ صفحہ ۳۲۶ ج ۵۔ ۲ صفحہ ۳۲۷ ج ۵۔ ۳ انفاس عیسیٰ صفحہ ۶۳۲ ج ۳۔ امداد الفتاویٰ صفحہ  
 ۲۸۶ ج ۴۔ ۴ صفحہ ۴۷۰۔

وقت غافل نہ ہو ہر وقت استحضار رہے۔ جیسے علم حضوری اور بعض امور کا دوام یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا اس وقت اس کا استحضار کر لیا۔ ۱۔

## فصل نمبر ۳:..... رسم کا بیان، رسم کی تعریف

رسم صرف اس بات کو نہیں کہتے جو نکاح اور تقریبات میں کی جاتی ہیں بلکہ ہر غیر لازم چیز کو لازم کر لینے کا نام رسم ہے۔ خواہ تقریبات ہو یا روزمرہ کے معمولات میں۔ ۲۔

امور دنیویہ میں رسم یا التزام کا حکم:

التزام سے مراد مطلق التزام نہیں بلکہ وہ مراد ہے جس کے ترک کو عیب اور موجب ملامت و لعن طعن سمجھا جائے اور اس کا حد شرعی سے تجاوز ہونا ظاہر ہے اور اس تجاوز کا منہی عنہ لائقہ و امیں منصوص ہے اور یہ التزام اس تجاوز کا معین سبب ہے اس لئے یہ بھی ممنوع ہے۔ نیز اس تجاوز کا فشا کبر و ریاء ہے جس کی حرمت منصوص ہے جس طرح لباس شہرت سے ممانعت آئی ہے۔ ۳۔

رسم و غیر رسم کا معیار:

جب نہ رسم کی نیت ہو نہ رسم والوں کے طریقہ پر کریں تو وہ رسم نہیں نہ حقیقتہً نہ صورتہً یہی معیار فرق ہے۔ ۴۔

۱۔ ابدائع صفحہ ۲۱۹، کلمات اشرفہ صفحہ ۱۳۴، اصلاح المسلمین صفحہ ۸۲۔ ۲۔ امداد الفتاویٰ صفحہ ۳۳۰ ج ۵۔

۳۔ امداد الفتاویٰ صفحہ ۵۷۱ ج ۳۔

## غلو فی الدین کی ممانعت:

دین شریعت میں غلو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ یا اھل الکتاب لا تغلو فی دینکم اور ارشاد ہے لا تحرموا طیبت ما احل اللہ لکم۔ اور دیکھئے حدیث میں ہے کہ تین شخص حضور ﷺ کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے اور بعض ازواج مطہرات سے حضور ﷺ کے معمولات دریافت کئے اور جب انہیں بتلائے گئے تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم اپنے کو حضور ﷺ پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں۔ حضور ﷺ کے اگلے پچھلے سب زلات (الغزیشیں) معاف ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بات کب نصیب ہے اس لئے ہم کو بہت زیادہ مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ پس ایک نے کہا میں نکاح ہی نہ کروں گا۔ ایک نے کہا میں اتنی عبادت کروں گا کہ سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی سے رہوں گا، افطار نہ کروں گا۔ حضور ﷺ جب مکان پر تشریف لائے تو آپ ﷺ کو ان تینوں کی باتیں معلوم ہوئیں۔ آپ ﷺ کو ناگوار ہوا اور فرمایا یاد رکھو میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ خوب سمجھ لو یہ میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے کو چھوڑے گا اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔

دیکھئے ان لوگوں پر آپ نے غلو فی الدین کی وجہ سے کتنا بڑا تشدد فرمایا کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی علاقہ نہیں۔

ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان میں ایک رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا رسی زینب نے باندھی ہے، جس وقت ان کو نوافل پڑھتے پڑھتے نیند ستاتی ہے تو کسل (سستی اور نیند) ختم کرنے کے لئے اس پر سہارا لگا لیتی ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فوراً اس کو توڑ ڈالا اور فرمایا کہ نفس پر اتنا تشدد نہ کرنا چاہئے اور فرمایا جب نیند آئے سو رہو۔ جب کسل رفع ہو جائے پھر مشغول ہو جاؤ۔

شریعت تو یہ ہے ان آیتوں اور احادیث کو فقہاء نے خوب سمجھا ہے۔  
ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقویٰ طہارت مت کرو بلکہ تقویٰ طہارت میں تو  
خوب کوشش کرو مگر حد سے آگے مت بڑھو۔!

جائز کے دو درجے:

جائز کے دو درجے ہیں۔ ایک محض مباح جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی  
نہیں۔ جیسے امراض کا معالجہ، اور اس کا ترک اور دوسرا درجہ جس میں کوئی حیثیت دین  
اور طاعت کی بھی ہے۔

اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ترغیب شریعت میں آئی ہے، جیسے  
نکاح کہ اس کی تاکید وارد ہے اور اس کے ترک بلا عذر پر وعید بھی ہے۔ یہ صاف  
دلیل ہے اس کے طاعت ہونے کی۔ ۲

## الْبَابُ السَّابِعُ

### اصول مباحث

#### فصل نمبر ۱: ..... عرف و رواج کا بیان

ادب کا مدار عرف پر ہے:

ادب کا مدار عرف پر ہے۔ اس لئے اختلاف از منہ سے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔  
حضرات صحابہؓ کا حضور ﷺ کے ساتھ مزاح کرنا ثابت ہے اور اب بزرگوں کے ساتھ  
مزاح کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ ۱

باپ کو بر خور دار کہنا عرف کی بناء پر ممنوع ہے:

باپ کو بیٹے کے مال سے منفع ہونا جائز ہے۔ مگر اس اشقاع کی وجہ سے یہ جائز  
نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو ”بر خور دار“ یعنی منفع لکھنا شروع کر دے۔ حالانکہ مطلب  
دونوں کا ایک ہی ہے۔ مگر باوجود اس کے پھر جو بیٹے کے لئے یہ ناجائز ہے کہ وہ باپ کو  
بر خور دار کہے اس کی وجہ وہی ایہام ہے۔ باپ کی بے ادبی کا اور اس ایہام کی وجہ یہ  
ہے کہ ”بر خور دار“ کا لفظ عرفاً بیٹے کے لئے مخصوص ہے اس لئے باپ کے لئے اس لفظ  
کا استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ ۲



بجائے شکر یہ اور جزاک اللہ کے، تسلیم کہنا:

جب کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو لینے والا اگر چھوٹا ہو تو شکر یہ کے طور پر تسلیم کہتا ہے کیونکہ بعض وقت بڑے کو جزاک اللہ کہنے سے بے ادبی معلوم ہوتی ہے اور بجائے ”السلام علیکم“ کے تسلیم کہنا خلاف سنت معلوم ہوتا ہے تو کیا کرے؟

ارشاد فرمایا کہ تسلیم سے یہاں اسلام مقصود نہیں بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ بجائے شکر یہ کے تسلیم کا لفظ کہہ دیتے ہیں اور اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ اس موقع پر ”السلام علیکم“ کا استعمال غالباً فی غیر محلہ ہوگا۔ ۱

عرف کی بنا پر عادات و بدعات بھی شعائر اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں:

ایک صاحب نے مولانا خلیل احمد صاحب سے اعتراض کیا کہ انہوں نے ایک فتویٰ میں ذبح بقر (گائے) کو شعائر اسلام میں سے لکھا ہے حالانکہ یہ تو محض عادات میں سے ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ صحیحین کی حدیث ہے۔ مَنْ صَلَّى صَلَوَاتِنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتِنَا وَاکَلَ ذَبِحَتِنَا آخِرِيهٖ اَکَلَ ذَبِحَتِنَا کیوں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بعض عادات بھی کسی عارض سے شعائر اسلام سے ہو جاتے ہیں۔ ۲

جیسے ہد زنا رکھنے نے شعائر کفر فرمایا ہے اور اس سے تمام احکام کفر کے جاری کر دیئے جائیں گے (اور جیسے) ترک صلوة اس زمانہ (عہد صحابہ میں کفر ہی کی علامت تھی، پس اس کا حاصل کفر ہی ہوا۔ ۳

عرف و رواج کے بدلنے سے احکام کیوں بدلتے ہیں؟

فقہاء کرام نے بعض احکام میں تغیر عرف کی وجہ سے بدلنے کا حکم دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام حقائق سے متعلق ہوتے ہیں اور عرف کے بدلنے سے وہ حقیقت نہیں

بدلتی جس سے حکم کا تعلق تھا۔ صرف عرف سے اس حقیقت کی صورت بدل جاتی ہے۔ سو صورت مدار حکم نہیں۔ مثلاً وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ حقیقت اس نبی کی ایذاء ہے۔ پس جہاں تانیف موجب ایذاء ہو وہاں حرام ہے اور اگر کسی وقت عرف بدل جائے اور تانیف موجب ایذاء نہ ہو تو حرام نہیں۔ تو جس حکم کا مدار ایذاء پر تھا وہ ایذاء ہی پر مرتب ہوگا اور بدون ایذاء کے حکم ثابت نہ ہوگا۔ پس ایک لفظ کسی قوم کے عرف میں موجب ایذاء ہے وہاں اس لفظ کا تلفظ حرام ہوگا اور دوسری قوم کے نزدیک موجب ایذاء نہیں وہاں تلفظ حرام نہ ہوگا۔ ۱

تشبہ بالکفار کا مدار بھی عرف پر ہے:

جو رسوم اور عادات کفار کے ساتھ ایسی خصوصیت رکھتے ہوں کہ بمنزلہ ان کے شعار کے ہو گئے ہوں۔ اگر عرفا وہ شعار مذہبی سمجھے جاتے ہوں وہ بھی کفر ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ من بحیرة ولا مسابغة الی قوله تعالیٰ یفترون علی اللہ الکذب۔ اسی اصل پر فقہاء نے حد زنا کو کفر فرمایا ہے ورنہ تشبہ بالکفار ہے جو رکون (میلان) الی الکفار ہونے کے سبب معصیت و حرام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ولا ترکوا الی الذین ظلموا الخ۔ ۲

حق تعالیٰ کے لئے صیغہ واحد کا استعمال اور قرآن مجید کے

ادب کا دار و مدار عرف پر ہے

صیغہ واحد کا استعمال حق تعالیٰ کے لئے خلاف ادب نہیں کیونکہ اول تو یہ عرف عام ہو گیا ہے اور ادب کا مدار عرف ہی پر ہے۔

ورنہ مولانا اسماعیلؒ کے لطیفہ سے سب کو خاموش ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ ایک

عالم کو آپ نے خاموش کر دیا تھا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی فرس پر بیٹھا ہو اور قرآن کریم کو رطل پر رکھے ہوئے پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی پنگ پر پیر لٹکا کر بیٹھ جائے یہ جائز ہے یا نہیں؟

مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ اگر قرآن شریف کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ کیسا ہے؟ کہا یہ جائز ہے مولانا نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ چار پائی پر بیٹھنے میں اگر بے ادبی بیروں سے ہے تو کھڑے ہونے والوں کے بھی پیر نیچے ہیں، اور اگر بے ادبی سرین کے نیچے ہونے سے ہے تو سرین کھڑے ہونے والے کی بھی اونچے ہیں، وہ مولوی صاحب حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ اگر فقیہ ہوتے تو کہہ دیتے کہ ادب کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو بے ادبی اور دوسری صورت کو ادب شمار کیا جاتا ہے۔ بہر حال ادب کا مدار عرف پر ہے۔ فقہاء نے اس کو خوب سمجھا ہے۔

منبر پر قرآن شریف رکھنا بے ادبی ہے یا نہیں:

کسی صاحب نے خانقاہ کی مسجد کے منبر کی بیچ کی سیڑھی پر جمائل شریف رکھ دی۔ حضرت والا نے فرمایا جمائل کو اس جگہ اس طرح رکھنا بے ادبی ہے کیونکہ اس سیڑھی پر خطیب پاؤں رکھتا ہے۔ گو جمائل جزدان میں ہے مگر چونکہ جزدان جمائل سے اس وقت لپٹا ہوا ہے، الگ نہیں ہے اور جمائل اور زینہ کے درمیان کا حائل ہوتا ہے ادبی کے لئے نافی نہیں بلکہ اس جزدان کے نیچے یعنی منبر کی سیڑھی کی سطح پر اوپر کپڑا رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کپڑے پر جمائل ہوتی تو بے ادبی نہ ہوتی۔

البتہ اگر یہاں جزدان اس جمائل سے الگ ہوتا اور جمائل اس کے اوپر ہوتی تو گو

جزدان کے نیچے کپڑا بھی نہیں ہوتا مگر بے ادبی نہ ہوتی کیونکہ اس وقت بھی جو حائل سیزمی پر ہوتی مگر عرفاً یہ کہا جاتا ہے کہ حائل جزدان پر رکھی ہے اور جزدان پر رکھنا ظاہر ہے کہ بے ادبی نہیں اور اب جب کہ حائل جزدان میں لپٹی ہوئی ہے، اگرچہ جزدان منبر کے سیزمی اور حائل کے درمیان حائل ہے مگر اس وقت عرفاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ حائل جزدان پر رکھی ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ منبر کی سیزمی پر رکھی ہے اور حائل کا مسجد کی سیزمی پر رکھنا خلاف ادب ہے۔ اس کی ایک مثال ہے جیسے کوئی شخص لنگی زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے تو اس کو جالس علی الارض نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے لنگی پر بیٹھا ہے۔ البتہ اگر اس لنگی کو وہ باندھ کر بیٹھے تو اس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ زمین پر بیٹھا ہے۔ حالانکہ لنگی اب بھی اس شخص کے جسم اور زمین کے درمیان ہے۔

قاعدہ: ادب کا مدار عرف پر ہے یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہو، اگر عرفاً بے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعاً وہ فعل بے ادبی میں شمار ہوگا۔ ۱

### عرفی ادب کا ثبوت:

فرمایا حضور ﷺ ہجرت کے وقت مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں اترے تو انہوں نے مکان میں نیچے اتارا اور آپ اوپر رہے۔ ایک دن ان کو رات کو خیال آیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے تو وحشت ہوئی اور اس وقت محاذات سے میاں بی بی دونوں ہٹ گئے اور صبح کو عرض کیا کہ حضرت مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا اور حضور ﷺ کو اوپر منتقل کر دیا اور خود نیچے آ گئے۔

اس سے محترم چیز کے نیچے ہونے کا جواز تو ثابت ہوا خود حضور ﷺ نے اس کو جائز رکھا تھا مگر حضرت ابو ایوب کے دل نے گوارا نہ کیا اور ادب اس کا متقاضی نہ ہوا۔ (اس واقعہ سے ادب کا ثبوت ہوا)۔ ۲

کبھی عربی ادب فوق الامر ہوتا ہے:

بعض دفعہ امر و جواب کے لئے ہوتا ہے اور ادب اس کو مانع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضور ﷺ نے اپنا نام مبارک مٹانے کے لئے فرمایا اور یہ امر و جواب تھا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تعمیل نہ کر سکے اور عرض کیا حضور ﷺ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔  
(اس سے بھی عربی ادب کا ثبوت ہے)۔

## فصل دوم: ..... تشبہ کا بیان

تشبہ کا مسئلہ نص قرآنی سے ثابت ہے

فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم والی حدیث میں ایک دفعہ دیوبند کے بعض طلبہ کے متعلق سنا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا حدیث کی تو مجھے تحقیق نہیں کہ سند کے لحاظ سے کیسی ہے مگر میں اسی مضمون کو آیت سے ثابت کر دوں گا۔ یہ مسئلہ خود نص قرآنی میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ولا تزرکونوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل باطل کی طرف میلان حرام ہے اور اس کے ساتھ ایک قاعدہ بھی ملا لیا جائے کہ تشبہ بدون رکون اور میلان قلبی کے نہیں ہوتا۔ تشبہ جب کبھی پایا جائے گا رکون کے ساتھ پایا جائے گا۔ یعنی لازم ہے کہ اس کی طرف رکون ہو۔ اولاً رکون ہوتا ہے پھر تشبہ ہوتا ہے۔ قلب میں اولاً اس کی عظمت ہوتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی میلان ہوتا ہے۔ اس کے اثر سے تشبہ ہوتا ہے۔ پس جب رکون اور

۱۔ حسن العزیر صفحہ ۱۰۹ ج ۴۔ ۲۔ ترجمہ: یعنی مت مائل ہوں لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا کبھی تم کو بھی آگ پہنچ جائے۔

میلان حرام ہے تو تشبہ بھی حرام ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جس کو آج نجف پری کہتے ہیں کہ  
من تشبه بقوم فهو منهم کجھ میں نہیں آتا۔

بعض مدعیان علم حدیث من تشبه بقوم فهو منهم کو ضعیف لکھتے ہیں۔  
مگر آیت تو ضعیف نہیں ہے۔ ۱

تشبہ کے ممنوع ہونے کی دلیل حدیث پاک سے:

دیکھو حضور ﷺ نے عشاء کو عتمہ کہنے سے منع فرمایا تھا حالانکہ یہ بھی ایک لغت  
تھی۔ مگر چونکہ اہل جاہلیت اس کو بولتے تھے اس واسطے پسند نہیں فرمایا۔ تشبہ کے  
بارے میں بہت لوگوں کی طبیعت میں الجھن ہوتی ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ ۲  
(حالانکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے)۔

تشبہ کے ممنوع ہونے کی عقلی و عرفی دلیل:

یہ مسئلہ تشبہ کا صرف نقلی ہی نہیں عقلی بھی ہے۔ اگر کوئی جنٹلمین صاحب اپنی بیگم  
صاحبہ کا زمانہ رنگین جوڑا پہن کر اجلاس میں کرسی پر آ بیٹھے کیا خود کو یاد دہرے دیکھنے  
والوں کو ناگوار نہ ہوگا تو آخر ناگواری کی وجہ بجز تشبہ کے اور کیا ہے؟ سو ایک عورت  
مسلمان جو دینداری میں شاید تم سے بھی بڑھی ہوئی ہو اس کی تشبہ سے تو ناگواری ہوتی  
ہے اور کفار و فجار کے تشبہ سے ناگواری کیوں نہ ہو۔ ۳

ایک ضلع میں ایک شخص ترکی ٹوپی پہن کر کچھری میں آگئے۔ صاحب کلکٹران پر  
بہت ناراض ہوئے کہ تم سرکار کے مخالفوں کی ٹوپی اوڑھ کر کیوں آئے ہو۔ ان کو گرفتار  
کر لیا گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ من تشبه بقوم فهو منهم کا مسئلہ عقلی بھی ہے۔ ۴

۱۔ اتقاء الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ نے اس حدیث کی تحقیق و تصویب اور صحیح فرمائی ہے۔ ۲

الاقاضات صفحہ ۳۲۶ ج ۸ نمبر ۲ و کلمۃ الحق صفحہ ۱۲۶ و القول الجلیل صفحہ ۶۱۔ ۳ حسن العزیز صفحہ ۷۳۔

۴۔ الاقاضات صفحہ ۳۲۶ ج ۸ حسن العزیز صفحہ ۳۵ ج ۲۔ ۵ صفحہ ۲۲۴ ج ۲۔

دیکھئے اگر اس وقت زمانہ حرب میں کوئی جرمی لباس پہنے، یا بلا ضرورت جرمی بولے تو حکام کو کیسا ناگوار ہو۔ جب تشبہ کوئی چیز نہیں تو یہ ناگواری کیوں ہوتی ہے؟  
پھر شریعت پر کیا اعتراض ہے۔ اگر وہ منکرین و مخالفین کی مشابہت سے منع کرتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے ان الفاظ کی بھی اجازت نہیں دی جن کو کفار استعمال کرتے تھے۔

### تشبہ کی تعریف اور رفع تشبہ کی پہچان:

اس کا معیار یہ ہے کہ جہاں کوئی بات کسی کی وضع ہو اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ بات کفار میں ہے اور کفار کی خصوصیت کی طرف ذہن جاتا ہو تو تشبہ ہو گا ورنہ نہیں۔  
پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھلک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلانے لوگوں نے کی ہے۔ مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا۔

(اور اگر خصوصیت ندر ہے تو ممانعت بھی نہ ہوگی)۔ ۳

### تشبہ ناقص و کامل دونوں مذموم اور ممنوع ہیں

میز کی طرح تپائیوں پر رکھ کر کھانا کھانے کا حکم:

تشبہ کبھی ناقص ہوتا کبھی کامل اور دونوں مذموم ہیں۔ گودونوں کے درجے میں تفاوت ہو۔ (ایک شخص نے سوال کیا کہ) عرب میں رسم ہے کہ چوکیاں (تپائیاں) سامنے رکھ کر ان پر کھانا کھاتے ہیں اور یہاں اس کو بھی تشبہ کہتے ہیں۔  
فرمایا وہاں کی رسم تو عادت ہے اور یہاں جو ایسا کیا جاتا ہے میز کی نقل بنانے کے لئے کیونکہ چوکی (تپائی) میز کے مشابہ ہے مشابہت نام نہ سہی ناقص سہی یہ بھی برا ہے، غور

کر کے دیکھ لیجئے کہ یہاں کیا غرض ہوتی ہے۔ ضرور یہی ہوتی ہے کہ میز سے کچھ مشابہت ہو جائے، پوری مشابہت سے اس واسطے بچتے ہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے۔

یہ ایسا ہے جیسے کہ زنانہ کپڑے پہننا کوئی مرد پسند نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اور کپڑے تو مردانہ ہوں عمامہ ٹوپی وغیرہ اور صرف پانچامہ زنانہ غرارہ دارگوٹہ لگا ہوا پہن لے اور دل کو یہ سمجھالے کہ یہ تشبیہ بالنساء نہیں ہوا کیونکہ پوری وضع زنانی نہیں ہے تو کیا آپ اس کی تاویل کو کافئی سمجھیں گے۔

تپائیاں میز کے مشابہ ہیں اور میز کی مشابہت کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگرچہ اتنا فرق ہے کہ پائے چھوتے ہیں۔

اور فرمایا کہ اصل میں چوکی (تپائی) کھانے کے اکرام کے لئے ایجاد ہوئی ہوگی اور اب اپنا اکرام مقصود ہے کہ جھکنانہ پڑے کیونکہ جھکنانہ کے خلاف ہے یہ کبر ہے۔

### تشبیہ کے اقسام و احکام:

① تشبیہ بالکفار اعتقادات و عبادات میں کفر ہے اور مذہبی رسومات میں حرام ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ کی طرح سینہ پر صلیب لٹکانا اور ہنود کی طرح زنا ربا نڈھنا ایسا تشبیہ بلاشبہ حرام ہے۔ ۲

تشیبہ بالکفار امور مذہبیہ میں حرام ہے۔ جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع میں ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا جیسے صلیب لٹکانا، سر پر چوٹی رکھنا، باجے پکارنا۔ ۳

② معاشرت اور عبادات اور قومی شعار میں تشبیہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلاً کسی قوم کا وہ مخصوص لباس استعمال کرنا جو خاص انہی کی طرف منسوب ہو، اور اس کا استعمال کرنے والا اسی قوم کا ایک فرد سمجھا جانے لگے جیسے نصرانی ٹوپی (یعنی ہیٹ) اور ہندو اتہ دھوٹی، یہ سب ناجائز اور ممنوع ہے اور تشبیہ میں داخل ہے۔ ۴

۱۔ حسن العزیز صفحہ ۲۰۸ ج ۳، صفحہ ۳۲۲ ج ۸، میرۃ الافاضات۔ ۲۔ سیرۃ المعطفی صفحہ ۵۵ ج ۲ بحوالہ قانوی۔ ۳۔ سیرۃ المعطفی صفحہ ۵۵ ج ۲ بحوالہ قانوی۔ ۴۔ حیات المسلمین صفحہ نمبر ۱۲ ایضاً



وعلیٰ ہذا: کافروں کی زبان اور ان کے لب و لہجہ اور طرز کلام کو اس لئے اختیار کرنا کہ ہم بھی انگریزوں کے مشابہ بن جائیں تو بلاشبہ یہ ممنوع ہوگا۔ ۱۔

۳ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہیں گوان کی ایجاد ہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے دیاسلائی یا گھڑی یا نئے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو اس کا برتنا جائز ہے۔ مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل اپنی عقل سے نہ کریں بلکہ علماء سے پوچھ لیں۔ ۲۔

ایجادات و انتظامات اور اسلحہ، اور سامان جنگ میں غیر قوموں کے طریقے لے لینا جائز ہے جیسے بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ یہ درحقیقت تشبہ نہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نیت و ارادہ کافروں کی مشابہت کا نہ ہو۔ یہ ان ایجادات کا حکم ہے جن کا بدل مسلمانوں کے پاس نہیں اور جو ایسی ایجاد ہوں کہ جس کا بدل مسلمانوں کے پاس موجود ہو تو اس میں تشبہ مکروہ ہے۔ ۳۔

۴ مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہیں ان کی وضع اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر ان سب ناجائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی تو زیادہ گناہ ہوگا اور اگر ادھوری بنائی تو اس سے کم ہوگا۔ ۲۔

تشبہ کے احکام کا خلاصہ:

تشبہ بالکفار امور مذہبیہ میں تو حرام ہے اور شعار قومی میں مکروہ تحریمی ہے۔ باقی ایجادات اور انتظامات میں جائز ہے۔ وہ حقیقتہ میں تشبہ ہی نہیں اور جو چیزیں کفار ہی کے پاس ہوں اور مسلمانوں کے یہاں اس کا بدل نہ ہو اور وہ شے کفار کا شعار قومی یا امر مذہبی نہ ہو تو اس کا اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ اور جو ایجاد ایسی ہیں جس کا بدل مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہے اسی میں تشبہ مکروہ ہے۔ جیسے رسول اللہ ﷺ نے فارسی کمان سے منع فرمایا۔

## تشبہ کے درجات:

نصوص صریحہ سے تشبہ باہل باطل خصوصاً غیر مسلم، پھر خصوصاً اہل کتاب کا محل وعید ہونا ثابت ہے۔ من تشبہ بقوم فهو منهم میں وعید کا شدید ہونا ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ تشبہ کرنے کو کفار میں سے شمار ہونے کا موجب فرمایا گیا۔

اول تو ان کے ساتھ تشبہ ہی مذموم ہے۔ پھر خصوصاً جب وہ تشبہ امر متعلق بالدین میں ہو کہ تشبہ فی الامر الدنیوی سے تشبہ فی الامر الدینی اشد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے گوشت شتر (اونٹ) چھوڑنے پر آیت ”یا ایہا اللدین آمنوا دخلوا“ نازل ہونا اس کی کافی دلیل ہے۔

اور اس میں بھی خاص کر جبکہ ان کو دیکھ کر ان کی تقلید کی جائے کہ اتفاقی تشبہ سے یہ اور بھی زیادہ مذموم ہے۔

شیوع ہو جانے اور رسم و عادت غالبہ بن جانے سے تشبہ ختم ہو جاتا ہے

## میز کرسی پر کھانا کھانے کی بابت اظہار خیال:

میز کرسی پر کھانا کھانے کی قباحت میں بعض مقامات میں تامل ہوتا ہے کیونکہ اب ان مقامات میں یہ عام طور سے مشہور اور عام ہو گیا ہے اور عموم شہرت کی وجہ سے تشبہ سے نکل جائے گا۔ مگر پورا عام نہیں ہوا ہے اس لئے دل میں کچھ کھٹک سی رہتی ہے۔ جب تک دل میں کھٹک رہے تو پھر تشبہ کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔ ۲

سوال:- عرب میں رسم ہے کہ چوکیاں و تپائیاں سامنے رکھ کر کھانا کھلاتے ہیں اور یہاں اس کو بھی تشبہ کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں وہاں کی رسم تو عادت ہے۔ ۳

لندن میں کوٹ پتلون پہننے میں تشبہ نہیں ہے:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جو شخص لندن میں مسلمان ہو اور وہاں کوٹ پتلون پہنے تو تشبہ ہوگا یا نہیں؟ فرمایا تشبہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ غیر قوم کا لباس ہے وہاں تو سب کا لباس یہی ہے کوئی امتیاز نہیں، اگر یہاں پر بھی کوٹ پتلون عام ہو جائے کہ ذہن سے خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ۱

تشبہ ختم ہو جانے کی پہچان:

پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ منع تو فلاں نے لوگوں کی ہے جیسے انگر کھایا اچکن پہنا، مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہنا، دھوتی باندھنا، یا عورتوں کو لہنگا پہنا۔ (البتہ اگر یہاں پر بھی کوٹ پتلون عام ہو جائے کہ ذہن میں سے خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔) مگر جب تک دل میں کھٹک ہے اس وقت تک تشبہ کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔ ۲

تشبہ کے حکم میں زمان و مکان کے لحاظ سے فرق:

سوال کیا گیا کہ عورتوں کو اپنے کرتے میں کف لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جہاں تشبہ بالرجال ہو وہاں ممنوع ہے اور جہاں نہ ہو وہاں جائز ہے۔ ۳

شیر وانی پہننے کا حکم اور یہ کہ اس میں تشبہ ہوگا یا نہیں:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ شیر وانی پہننا کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس میں عموم ہے یا نہیں۔ یہ دیکھ لیجئے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اصل میں تو حیدرآباد کا لباس

۱۔ حسن العریض صفحہ ۲۱۳ ج ۳۔ ۲۔ حیات المسلمین وغیرہ۔ ۳۔ ملفوظات خبرت صفحہ ۷۵ ج ۳۔

ہے اور سب سے اول علی گڑھ والوں نے لیا۔ اب وہ علی گڑھ والوں کا لباس سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے تہبہ نیچریوں کے ساتھ ہوگا۔ ۱۔  
فائدہ: چونکہ آج کل اس میں عموم ہے اس لئے تہبہ مرتفع ہے اور اب بلا کراہت درست ہے۔ (مرتب)

### دستر خوان میں پانی کی بوتلیں رکھنا:

ایک شخص دوکان پر یادستر خوان پر شراب کی سی بوتلیں بھر کر رکھے گو ان میں پانی ہی ہو شراب نہ ہو وہ مجرم ہے اور شرعاً گناہ گار ہے۔ کیونکہ اس نے شراب خوردوں کے ساتھ تہبہ کیا ہے۔ ۲۔

فائدہ: بعض علاقوں میں بوتلوں ہی میں کولر فرنیچر میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور بوقت طعام اسی بوتل کو نکال کر سامنے رکھ لیا جاتا ہے۔ ان بعض علاقوں میں بھی شیوع ہو جانے اور عدم التفات کی بناء پر تہبہ ختم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔

### میز کرسی پر افطار کرنا:

ایک شخص نے پوچھا کہ افطاری میز کرسی پر جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا حرام مال سے افطاری جائز ہے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقوع دونوں جگہ ہو جائے گا۔ باقی فتح عارضی دونوں جگہ ہے۔ ۱۔ میز کرسی پر کھانا کھانا تہبہ کے سبب ممنوع ہے۔ ۱۔

## تشبہ سے متعلق ایک مسئلہ

کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یہ جملہ تشبہ کی بناء پر ممنوع ہے:

فرمایا آج کل جو یہ محاورہ ہے کہ ”کیا میں فلاں کام کر سکتا ہوں“ فلاں جگہ جاسکتا ہوں“ اور مقصود اس جملہ سے اس فعل کے متعلق اپنی قدرت اور استطاعت کا سوال نہیں ہوتا بلکہ خود اس فعل کے وقوع کی درخواست مقصود ہوتی ہے۔ اِذْ قَالَ الْخَوَارِثُ..... هَلْ يَسْتَطِيعُ رَيْثُكَ الْخِمْ۔ اس کے اندر حق تعالیٰ نے خوارین کا ایک قول ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم پر ماندہ کا نزول ہو تو بجائے اس کے یوں کہتے کہ ہم پر ماندہ کی درخواست کرتے ہیں۔ یوں کہا جائے، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر ماندہ نازل فرمائے۔ پس معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا قدیم مذاق ہے اور ان کا ایک بہت پرانا محاورہ ہے اور اب تو اس میں بددینوں کا تشبہ ہے۔ اس لئے میں خواص کے لئے محاورات کا استعمال بلا ضرورت بہتر نہیں سمجھتا۔

## فصل نمبر ۳..... عموم بلوئی کا بیان

عموم بلوئی کے معتبر ہونے کا ضابطہ:

- ۱..... فرمایا آج کل دو چیزیں منکرات میں سے بہت عام ہو گئیں ہیں۔ ایک تصویر دوسرے اسپریت اور الکحل کا استعمال۔ احقر نے عرض کیا کہ کیا اس میں ابتلاء عام اور عموم بلوئی کی کوئی رعایت حکم میں کی جاسکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حلت و حرمت میں عموم بلوئی معتبر نہیں بلکہ نجاست و طہارت میں معتبر ہے۔ وہ بھی جب کسی چیز کی نجاست و طہارت میں مجتہدین سلف کا اختلاف ہو۔
- ۲..... محض عموم بلوئی کی تاویل نہیں ہو سکتی، ورنہ غیبت میں بہت عموم بلوئی ہے بلکہ عموم بلوئی وہاں چل سکتا ہے جہاں مسئلہ مختلف فیہ ہو وہاں اپنا مسلک بوجہ عموم بلوئی ترک کر سکتے ہیں۔ ۲

مسائل مجتہد فیہا میں عموم بلوئی معتبر ہے:

میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ مجتہد فیہ میں عموم بلوئی کا اعتبار ہونا چاہئے۔ ”قرأت“ میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ متاخرین نے (قرأت کے متعلق جو عموم بلوئی کا لحاظ کیا ہے) میری رائے میں ٹھیک کیا ہے۔ ۳

عوام کی رعایت کرنے کا ثبوت اور اس کے حدود:

فرمایا کہ عوام کی رعایت تو حضور ﷺ نے بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ حطیم کو کعبہ کے اندر (اسی لئے داخل نہیں فرمایا) مگر جہاں اصل پر عمل کرنے کی ضرورت یا مصلحت

قوی ہوتی ہے وہاں عوام کی رعایت نہیں بھی کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت زینب کے نکاح میں۔ میری رائے میں تو جہاں رعایت کرنے میں دین کا کچھ نقصان ہو عوام کی رعایت نہ ہونا چاہئے اور جہاں رعایت نہ کرنے میں تشویش ہو جائے وہاں عوام کی رعایت کرے تو عظیم کے واقعہ میں کوئی دین کا نقصان نہ تھا اور حضرت زینب کے واقعہ میں تبلیغ میں کوتاہی ہوتی کیونکہ وہ تبلیغ عملی اور ضروری تھی۔ ۱

### محققین کا مسلک:

فرمایا محققین کا مسلک یہ ہے کہ اپنے نفس کے عمل میں سبکی برتے اور اعلیٰ و ادنیٰ کو عمل کے لئے اختیار کرے۔ مگر رائے اور فتویٰ میں وسعت رکھے کہ لوگوں کے لئے مقدر بھر آسانی کرے، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ ما کوہت فدعہ ولا تنحرہ علی احد۔ ۲

احوط یہ ہے کہ عمل میں تو اشد پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں سے معاملہ کرنے میں ارفق پر عمل کرے۔ ۳

### عموم بلوئی اور ضرورت عامہ خود مستقل دلیل نہیں:

خود ضرورت عامہ دلیل مستقل نہیں جب تک کسی کلیہ شرعیہ میں وہ صورت داخل نہ ہو، یا کسی کلیہ میں داخل کرنے کا مثل الحاق بالاسلم وغیرہ کے۔ محض عموم بلوئی کی تاویل نہیں ہو سکتی ورنہ غیبت میں بہت عموم بلوئی ہے۔ ۴

۱۔ کلمۃ الحق صفحہ ۱۱۸۔ ۲۔ مجالس حکیم الامت صفحہ ۱۶۰۔ ۳۔ کلمۃ الحق صفحہ ۸۷۔ ۴۔ امداد الفتاویٰ صفحہ ۱۰۵، ج ۳ و کلمات اشرفیہ صفحہ ۱۳۱۔

عموم بلوئی اور ضرورت عامہ کی بنا پر توسع فی المسائل کے حدود:

① میرا ارادہ تھا کہ ایک رسالہ احکامات معاملات میں ایسا لکھوں کہ جن معاملات میں عوام مبتلا ہیں اگر وہ صورتیں کسی مذہب میں بھی جائز ہوں تو اس کی اجازت دے دوں تاکہ مسلمانوں کا فعل کسی طرح سے توجیح ہو سکے۔ میں نے احتیاط اس کے بارے میں حضرت مولانا گنگوہی سے بھی دریافت کیا کہ ایسے مسائل میں دوسرے مذہب پر فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے بھی اجازت دے دی۔ مولانا بہت پختہ حنفی تھے۔

اور یہ توسع معاملات میں کیا گیا دیانات میں نہیں۔ اس میں کچھ اضرار نہیں۔ اسی لئے جمعہ فی القرئی میں ابتلاء عوام کے سبب ایسا توسع نہیں کیا البتہ اگر حضرت امام شافعیؒ کے قول پر احتیاط ہوتی تو فتویٰ دے دیتا مگر احتیاط حنفی مذہب میں ہے کیونکہ جس مقام کے مصر اور قریہ ہونے میں اختلاف ہو اگر وہ مصر ہی ہو اور اس میں کوئی ظہر پڑھے تو فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا گو کراہت ہوگی اور اگر وہ قریہ ہے اور وہاں جمعہ پڑھا تو جمعہ بھی نہ ہو اور ظہر بھی ساقط نہ ہوئی اس لئے ایسے مقام میں احتیاط ترک جمعہ ہی میں ہے۔ دوسرے یہ کہ ابتلاء بھی بدرجہ اضرار نہیں کیونکہ لوگ چھوڑ سکتے مگر جمعہ نہ پڑھی تو کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ اور زیادہ آرام ہوگا۔ اذان زائد نہیں، خطبہ نہیں۔!

② فرمایا دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جس میں ابتلاء عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہو تو اس پر فتویٰ رفع حرج کے لئے دیتا ہوں۔ ۲

③ اس لئے مختلف فیہ مسائل میں وسعت دینی چاہئے اس طرح ایک تو شریعت سے محبت ہوگی، دوسرے آرام رہے گا۔ ۳



## عوام کی رعایت کی ایک مثال:

۱۴) ایک استفتاء آیا ہے کہ امام صاحب ”ایک نستعین“ پر وقف نہیں کرتے بلکہ اس کے نون کو اھدنا سے ملا کر پڑھتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوجداری ہوگئی۔ میں نے لکھا کہ اس طرح پڑھنا جائز تو ہے مگر جب کہ سب سمجھدار ہوں ورنہ ایسے امام کو معزول کر دو جو فتنہ برپا کرے اور موقع محل نہ سمجھے۔ ۱

## عموم بلوئی و ضرورت پر متفرع چند جزئیات:

۱) سوال:- جس جانور کا بچہ مر جائے اس کا دودھ نکالنے کے لئے مصنوعی بچہ بنا کر رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بغیر بچہ کو دیکھے ہوئے وہ جانور دودھ نہیں اتارتا۔  
جواب:- جائز ہے۔ ۲

۲) سوال:- ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ پڑیا کارنگ جو یورپ سے آیا ہے وہ باوجود اختلاف نجاست اسپرٹ وغیرہ کے عموم بلوئی کی وجہ سے پاک ہے۔ اس میں احتیاط بھی مشکل ہے۔ اس فتویٰ پر عمل درست ہے یا نہیں؟

جواب:- چونکہ ضرورت شدید ہے اس فتویٰ پر عمل درست ہے۔ مگر اس شخص کو جس کو ضرورت ہو اور وہ میرے نزدیک عورتیں ہیں۔ کیونکہ مرد باآسانی بیچ سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے جواز کی ایک اور شرط ہے وہ یہ کہ جس شراب سے وہ اسپرٹ حاصل ہے وہ انگور اور کھجور اور کشمش کی نہ ہو۔ ۳ کیونکہ ان کی حرمت منصوص ہے۔ اس لئے اس میں ضرورت و عموم بلوئی کی رعایت نہ کی جائے گی۔ واللہ اعلم۔

اور میں عموم بلوئی کی وجہ سے صحت صلوٰۃ کا حکم دیا کرتا ہوں مگر خلاف احتیاط سمجھتا ہوں۔ ۴

۳) مجبوری اور اشد ضرورت میں ان لوگوں کے قول پر عمل کرے جو جواز ربوانی دار الحرب کے قائل ہیں۔ ۱۔

۴) عرض کیا گیا کہ ربز کے انسان بنائے جاتے ہیں جن کی مدد سے تشریح وغیرہ سیکھی جاتی ہے اور بنائے ہی اسی غرض سے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ اچھی صورت ہے لیکن اس میں تصویر اور مورت رکھنے کی حرمت لازم آتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سر وغیرہ کو جدا رکھا جائے۔ ۲۔

۵) سوال :- طلاء کے نسخہ میں کچھوے، کچھوے وغیرہ مارڈالے جاتے ہیں، مرض کے لئے ان چیزوں کی جان کھونا جائز ہے یا نہیں؟  
جواب :- چونکہ شرع میں یہ ضرورتیں معتبر ہیں اس لئے جائز ہوگا۔ ہاں تکلیف زائد از ضرورت دے کر مارنا جائز نہیں۔

۶) سوال :- موذی جانوروں کو آگ میں جلانے کا کیا حکم ہے؟  
جواب :- اگر وہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہوں تو پھر مجبوری کی وجہ سے جائز ہے اور اگر کسی اور طریق سے ہلاک ہو جائے تب جلانا جائز نہیں۔ ۳۔

”تعالیٰ“ جس کا فقہاء نے اعتبار کیا ہے اس کی تحقیق:

قال فی نور الانوار و تعامل الناس ملحق بالاجماع و فیہ ثم اجماع من بعدہم ای بعد الصحابة من اهل کل عصر اس سے معلوم ہوا کہ تعالیٰ بھی مثل اجماع کے کسی عصر کے ساتھ خاص نہیں البتہ جو اجماع کارکن ہے وہی اس میں بھی ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس وقت کے علماء اس پر کبیر نہ کرتے ہوں، اسی طرح فقہاء نے بہت سے نئے جزئیات کے جواز پر تعالیٰ سے احتجاج کیا ہے۔ ۲۔

كما في الهدايه في البيع الفاسد ومن اشترى نعلًا على ان يحذوه  
البائع قوله يجوز للتعامل فيه فصار كصنع الثوب للتعامل جوازنا  
الاستصناع وفيها في السلم ان استصنع الي قوله للاجماع الثابت  
بالتعامل۔ پس اس بنا پر کتاب چھوٹا استصناع میں داخل ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ۱

## فصل چہارم:..... حیلہ کا بیان:

حیلہ کی دو قسمیں اور ان کا حکم:

حیلہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ اغراض شریعت کے مبطل ہوں، جیسے حیلہ  
ادائے زکوٰۃ میں کہ جس کا مقصد اعانت مساکین اور ازالہ رذیلہ نفس ہے۔ اس میں  
کوئی حیلہ کرنا اور ادا نہ کرنا غرض شرعی کا مبطل ہے تو اس قسم کے حیلے ناجائز ہوں گے۔  
دوسرے وہ حیلے جو کسی غرض شرعی کے محصل و معین ہوں ایسے حیلے جائز ہوں  
گے جیسے حدیث میں ہے۔ بع الجمع بالدرہم ثم اتبع بالدرہم یعنی اس کو درہم سے بیچ  
کر درہم سے خرید لے۔ ۲

حیلہ کے جائز ہونے کے دو معنی (صحت و حلت کا فرق):

جواز کے دو معنی ہیں۔ ایک صحت یعنی کسی قاعدہ پر منطبق ہو جانا گو اس میں گناہ  
ہی ہو۔ جیسے کسی شخص پر جبر کر کے اس کی بی بی کو طلاق دلوادے اور بعد عدت اس سے  
نکاح کر لے، صحت نکاح اور معصیت دونوں ظاہر ہیں۔

دوسرے حلت یعنی گناہ نہ ہونا، پس اگر ان حیل کا جواز بالمعنی الاول ہے تب تو

کوئی شبہ ہی نہیں مگر یہ مفید نہیں، اور اگر بالمعنی الثانی ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ ان حیل کے اجزاء اتفاقاً واقع ہو جائیں مشروط اور معروف نہ ہوں اور نہ کسی پر جبر ہو کہ جبر امور غیر لازمہ میں خود حرام ہے۔ ۱۔

حیلہ کی ایک قسم استدلال بالالفاظ نہ کہ بالمعنی اور اس کے شرائط:

حضور ﷺ عبد اللہ بن ابی منافق کے جنازہ کی نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت کی **اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً اِلْح** تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے استغفار کو اختیار کیا اور میں ستر بار سے زائد کروں گا۔

اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ عربی کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ اونچیر کے لئے نہیں بلکہ تسویہ کے لئے جیسے **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ اَلْح** اس میں بھی اونچیر نہیں تسویہ ہے اور عبادہ کے موافق یہاں ستر کے عدد سے تحدید مقصود نہیں بلکہ تکثیر مقصود ہے۔ تو پھر حضور ﷺ نے یہ کیسے ارشاد فرمایا؟

حضرت مولانا یعقوب صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ شدت رافت و رحمت کی وجہ سے آپ نے الفاظ سے تمسک فرمایا۔ معنی کی طرف التفات نہیں فرمایا۔

مگر اس طرح کے استدلال کے واسطے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ضرورت ہو، دوسرے یہ کہ معنوں کا انکار نہ ہو اور یہ شرطیں میں نے قواعد کلیہ سے سمجھی ہیں، خود کشی کے واقعہ میں ضرورت کا ہونا ظاہر ہی ہے اور دوسرے واقعہ حدیث میں یہ ضرورت تھی اس کا ظہور بعد میں ہوا کہ بہت سے لوگ اس رافت و رحمت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ۲۔

## شرعی حیلہ کا محل و موقع!

حیلہ معاملات میں ہوتا ہے نہ کہ عبادات میں:

بہت سے معاملات میں فقہاء رحمہم اللہ نے بعض ناجائز معاملوں کی صورت بدلنے کے حیلے لکھے ہیں، جس کے بعد وہ جائز ہو جاتے ہیں اور خود رسول کریم ﷺ سے بعض معاملات میں اس طرح کے حیلے و تدبیر کی اجازت منقول ہے مگر بعض لوگ اس میں مغالطہ میں مبتلا ہیں۔ اس کو معاملات اور دیانات سب میں عام کر لیا ہے۔ حالانکہ حیلہ شرعی صرف معاملات میں ہو سکتا ہے دیانات میں نہیں ہوتا۔

حیلہ کے صحیح ہونے نہ ہونے کا ضابطہ:

فرمایا کہ حیلہ کبھی مقصود شرع کے ابطال کے لئے ہوتا ہے وہ حرام ہے، اور کبھی مقصود شرعی کے تحصیل و تعمیل کے لئے ہوتا ہے وہ جائز ہے اور جو حیلہ ایسا ہو کہ اس سے عوام کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے سود سے بچنے کے لئے ایسے حیلے جن سے لوگ سود ہی کو حلال سمجھنے لگیں حرام ہیں۔ ۲

زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کا حیلہ اور اس کا حکم۔ حیلہ دیانات میں نہیں ہوتا (جیسے) کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کا یہ حیلہ کرے کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنی کل ملکیت اپنی بیوی یا کسی لڑکے وغیرہ کے نام کر دے اور بہہ کر کے اس کا قبضہ بھی کر دے اور درحقیقت نیت بہہ کرنے کی نہ ہو بلکہ یہ قصد ہو کہ جب اگلا سال پورا ہونے آئے گا تو وہ مجھے بہہ کر دیں گے، اس طرح زکوٰۃ نہ ہوگی۔ یہ حیلہ حرام ہے اور بغیر حیلہ کے زکوٰۃ نہ لگانے کے گناہ سے زیادہ سخت (اس حیلہ کا) گناہ ہے کیونکہ یہ حیلہ

اللہ تعالیٰ کے فرض سے بچنے کے لئے کیا گیا ہے جو دیانات سے متعلق ہے۔ ۱۔

### ایسے حیلوں کی حرمت کی دلیل:

بنی اسرائیل نے جن پر یوم السبت میں مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا تھا، حیلہ کر کے شکار کرنے کی صورتیں نکال لی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔ ۲۔

### باطل حیلہ کی مثال:

ایک صاحب نے قربانی کی رقم کو مجرد ہان ترکی کی مدد کے لئے بھیجنے کے متعلق ایک فتویٰ کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ ایام اضحیہ میں تو اس رقم کو نہ دے، لیکن ایام اضحیہ گزرنے کے بعد دے اور قربانی نہ کرے جب وہ دن گزر جائیں تو وہ رقم مجرد ہان ترکی کو دے دے۔ اس کو سن کر مولاناؒ نے فرمایا کہ یہ بالکل لغو ہے اور معصیت کی تعلیم ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ شبہ عمد میں فقہاء نے دیت کے ساتھ کفارہ کو بھی لکھا ہے تو کوئی شخص فقراء کی خیر خواہی کر کے کسی کو یہ مشورہ دے کہ فلاں شخص کو لاشی سے مار دے پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ۳۔

## فصل نمبر ۵:..... تاویل کرنے کا ضابطہ

نصوص میں تاویل کرنے کا قاعدہ:

اصول عقلیہ و نقلیہ قطعیہ میں مسلمہ ہے کہ محکم اور ظاہر میں اگر تعارض ہو تو ظاہر میں تاویل کریں گے یعنی اس کو ظاہر سے متصرف کر کے محکم کی طرف راجع کریں گے۔

تاویل کی تعریف:

جو صرف عن الظاہر بضرورت صارف قطعی ہو اور موافق قواعد شرعیہ ہو وہ تاویل ہے ورنہ تحریف۔ ۲

تاویل کرنے کا ثبوت:

ایک غیر مقلد نے کہا کہ مولا ناروی اور شیرازی کے اقوال کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان کے ظاہری الفاظ پر حکم کیوں نہیں لگایا جاتا۔ میں نے کہا وہ ضرورت ایک حدیث سے ثابت ہے۔ کہنے لگے کونسی حدیث میں ضرورت آئی ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ دو جنازے حضور ﷺ کے سامنے سے گزرے اور صحابہ نے ایک کی مدح کی ایک کی مذمت، آپ نے دونوں پر فرمایا قد وجبت آگے وجبت کی تفسیر جنت اور نار سے فرمائی اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔ اتنا تو حدیث سے ثابت ہے۔

اب آپ چل کر جامع مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ان بزرگوں کی نسبت دریافت کریں تو ہر شخص ان کا بزرگ ہونا بیان کرے گا تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ اولیاء ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے قول کی توجیہ کرتے ہیں۔

### کسی کے قول و عمل میں تاویل کرنے کا ضابطہ:

دیکھنا یہ ہے کہ عادت غالبہ کیا ہے، اگر عادت غالبہ اتباع سنت ہے اور پھر غلبہ حال کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے جو بظاہر لغزش سمجھی جاسکے، اس میں تاویل کریں گے اور اگر عادت غالبہ خلاف سنت ہے وہاں تاویل نہ کریں گے۔ معیار یہ ہے۔

اگر کسی موثوق بہ سے اس کے خلاف منقول ہو گا اس کو نصوص کی طرف راجح اور اس کو نصوص کے تابع بنایا جائے گا نہ کہ بالعکس اور اگر راجح نہ ہو سکے گا تو اس نقل اور نسبت کی تکذیب کی جائے گی۔ ۳

صاحب حال سے اگر کوئی امر موہوم خلاف شرع صادر ہو تو منتہاء حسن ظن یہ ہے کہ خود اس کے فعل میں تاویل مناسب کر کے اس کو قواعد شرعیہ کے تابع بنا دیا جائے نہ یہ کہ شریعت میں تبدیل کر کے شریعت کو اس کے تابع بنا دے۔ (۴)

### تاویل کی حقیقت اور اہل حق و اہل ہوئی کی تاویل کا فرق:

تاویل اس کو کہتے ہیں کہ دو کلام جو بظاہر متعارض معلوم ہوتے ہیں کوئی ایسے معنی ان میں سے ایک کے لئے جائیں تاکہ تعارض نہ رہے۔ ہمارے تاویل کرنے اور علماء کے تاویل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری تاویلات اتباع نفس ہوتی ہے اور ان کی تاویل اتباع قرآن و حدیث۔ ان دونوں کے نتیجے میں



فرق ہے۔ ہم کو اس تاویل سے معاصی پر جرأت بڑھتی ہے اور ان کو اس تاویل سے دوسری آیت کی تعمیل نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت میں مطیع ہیں اور ہم ہر طرح نافرمانی کی گنجائش نکالتے ہیں۔ دونوں قسم کی تاویلوں میں فرق خوب سمجھ لو۔

### استدلال و اعتبار کی حقیقت اور دونوں کا فرق:

استدلال تو مفہوم لغوی سے ہوتا ہے۔ ان طرق کے ساتھ جو اہل معانی و اصول نے بیان کئے ہیں اور اعتبار تشبیہ و اشارہ کے طور پر ہوتا ہے اور ان دونوں کی اصل قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن میں دلیل و استدلال کا لفظ صراحتہً نہیں آیا بلکہ اس کے مرادفات آئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ قل ہاتوا برونکم اور ارشاد ہے قل هل عندکم من علم برہان اور علم دلیل کے معنی میں ہے۔ اس لئے اس کا نام استدلال رکھنا صحیح ہو گیا۔ جیسے ”اقیموا الصلوٰۃ“ کے معنی میں یوں کہنا کہ حق تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے صحیح ہے حالانکہ اقیموا الصلوٰۃ میں اللہ اور فرض کا لفظ صراحتہً نہیں مگر اس کا قائم مقام موجود ہے۔

اور دوسرے طریق کا نام خود قرآن ہی میں اعتبار آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”فاعتبروا یا اولی الابصار“ اس سے اوپر بنی نصیر کے جلا وطن کئے جانے کا قصہ مذکور ہے جس کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اے بصیرت والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ یعنی اگر تم ایسی حرکت کرو گے جو ان لوگوں کی ہے تو اپنے واسطے بھی اس عذاب کو تیار سمجھو اور یہی تو علم اعتبار ہے کہ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا جائے اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے کہ اگر ہم نے اس کے جیسے اعمال کئے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔

## تاویل کرنے کا معیار:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر تاویل کی جائے تو پھر کوئی بھی مواخذہ کے قابل نہیں رہتا، تاویل میں تو بڑی وسعت ہے۔

فرمایا کہ تاویل و توجیہ کا بھی ایک معیار ہے، ایک وہ شخص ہے جس کی غالب حالت صلاحیت کی ہے، دین کا مطیع ہے، عقائد صحیح ہیں، ایسے شخص سے کوئی غلطی ہو جائے وہاں تاویل واجب ہے، اور جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہے وہاں تاویل نہ کی جائے گی اور مستحقین تاویل کی شان میں اگر تاویل بھی نہ کی جائے تب بھی کف لسان واجب ہے۔ گو ان کا معتقد ہونا بھی واجب نہیں جیسے شیخ محی الدین ابن عربیؒ بایزیدؒ وغیرہ۔

## فصل نمبر ۶:..... قربات میں ایثار کرنے تحقیق:

۱:..... دوسروں کی بھلائی کو اپنی بھلائی پر مقدم رکھنا جس کو ایثار کہتے ہیں امور دنیویہ میں ہے یا ان امور میں ہے جو قربت مقصودہ نہ ہوں۔ مثلاً اگر دو آدمی برہنہ ہوں اور کسی ذریعہ سے ایک کی کفایت بھر کپڑا مل جائے تو جس کو ملا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ خود برہنہ ہو کر نماز پڑھ لے اور اپنے ساتھی کو کپڑا دے۔

۲:..... یا اگر ایک شخص صف اول میں کھڑا ہے اور دوسرا شخص صف دوم میں تو پہلے کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے کو آگے بڑھا کر خود پیچھے ہٹ جائے۔

## قائلین جواز کی دلیل اور اس کا جواب:

بعض لوگ قربت مقصودہ میں ایثار کرتے ہیں اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پانی یا دودھ پیادائیں طرف حضرت ابن عباس اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے۔ حضور ﷺ نے چاہا کہ حضرت ابو بکر کو دیں، لیکن باقاعدہ الایمن فالایمن کے ابن عباس سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری اجازت پر موقوف ہے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ ابو بکر کو مجھ سے پہلے پلایا جائے۔

خلاصہ ان لوگوں کے استدلال کا یہ ہے کہ اگر ایثار ہر امر میں جائز نہ ہوتا تو حضور ابن عباس کو ایثار کرنے کو کیوں فرماتے؟

لیکن اس حدیث کو علی الاطلاق حجت میں پیش کرنا اس لئے صحیح نہیں کہ سور نبی (نبی کا جھوٹا) اگرچہ موجب برکت اور بعض اعتبارات سے قربت مقصودہ سے بڑھ کر ہو لیکن قربت مقصودہ نہیں، قربت مقصودہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے ثواب و اجر کا وعدہ فرمایا ہو (حالانکہ) کہیں قرآن و حدیث میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ اگر ہم حضور ﷺ کا جھوٹا پانی پی لیں گے تو جنت ملے گی۔ اس لئے اگر حضور ﷺ نے ایسا فرمایا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اس سے قربت مقصودہ میں ایثار کا جواب ثابت نہیں ہوتا۔ پس دوسروں کی خیر کے لئے اپنی خیر یعنی اخلاص کا ترک کرنا جائز نہ ہوگا۔

## ایثار فی القربات میں محققین کا نظریہ:

فرمایا کہ زہدان خشک کافٹوی ہے کہ قربات میں ایثار جائز نہیں۔ مگر محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی ایک قربت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ادب کی رعایت کرنا اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ حج کے

زمانہ میں مسافروں کی رعایت میں خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی واجب شرعی نہیں۔ مگر جائز ہے۔ اس میں مسافروں کو بہت سہولت ہے۔

### محقق و راجح قول:

صوفیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کوشش بائیں طرف کھڑا ہونے کی کرتے ہیں اور دائیں طرف کے لئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح صف اول میں بھی مزاحمت نہیں کرتے بلکہ خاص حالات میں دوسروں کو صف اول میں جگہ دے دیتے اور خود صف ثانی میں ثالث میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔

صوفیہ فرض نماز کی جماعت میں بھی صف اول میں ایثار کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا بزرگ آجائے تو وہ اس کو مقدم کر دیتے ہیں اس پر فقہاء خشک اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے صف اول کے ثواب کو چھوڑ دیا جس میں استغناء عن الثواب ہے۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک ثواب تو صف اول میں کھڑے ہونے کا ہے اور دوسرا ثواب تعظیم اہل اللہ کا ہے جو اس سے بڑھا ہوا ہے تو ہم ظاہر میں گواہی ثواب کے تارک ہوئے مگر باطن میں دوسرے بڑے ثواب کے جامع ہوئے تو استغناء عن الثواب کہاں ہوا۔ اس میں بھی تو طلب ثواب ہی ہے۔

پھر شرعی قاعدہ ہے الدال علی الخیر کفعلہ یعنی خیر کو بتانا (اس کا ذریعہ بننا) مثل اس کے کرنے کے ہے۔ اس بناء پر جس کو ہم نے صف اول میں کھڑا کیا ہے اس کو جو صف اول کی فضیلت ہماری وجہ سے حاصل ہوگی، اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا تو ہم صف اول کے ثواب سے محروم نہ ہوئے اور اس کے ساتھ دوسرے ثواب کے جامع ہو گئے۔ ہمیں اس صورت میں دوہرا ثواب ملا۔

## فصل نمبر ۷: ..... تداخل عبادتیں کا مسئلہ

فرمایا کہ درمختار میں ہے کہ ماہ شوال کے چھ روزے رمضان کے قضاء روزوں میں بطور تداخل ادا ہو سکتے ہیں۔ یعنی جس پر قضا روزے ہوں ان کو شوال کے مہینے میں رکھ لے تو دونوں حساب میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی قضا روزوں کے رکھنے سے شش عید کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے بعد وضو فرض یا سنتیں پڑھنے سے تحیۃ الوضو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ مسئلہ روزوں کے بارے میں بالکل صحیح نہیں۔ اور تحیۃ الوضو پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ تداخل اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں ایک سے دوسرے کا مقصود بھی حاصل ہو جائے۔ مثلاً تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی مشروعیت کی بناء یہ ہے کہ کوئی وضو اور حاضری مسجد نماز سے خالی نہ ہو اور فرض یا سنتیں پڑھنے سے یہ مصلحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے تحیۃ المسجد علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہ رہی۔ یہاں تداخل ہو جائے گا اگرچہ مستقلاً پڑھنا اولیٰ ہے۔

بخلاف شش عید کے روزوں کے کہ ان کی فضیلت کی بناء یہ ہے کہ ان کے رکھ لینے سے سال بھر کا حساب برابر اس طرح ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی کی دس نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی غرض یہ وارد ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان صیام الدهر ترجمہ: ”جو رمضان کے روزہ رکھے اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہوگا“ اور اس کی بناء یہ فرمائی کہ صیام شہر بعشرۃ اشهر وستة ایام بشہرین فذلک تمام السنة (رواہ الدارمی) اور ایک حدیث میں یہ بناء ان الفاظ میں مذکور ہے من جاء بالحسنة فله عشر جب کسی

نے رمضان شریف کے روزے رکھے تو دس ماہ کے برابر تو وہ ہوئے اور چھ روزے شش عید کے دو ماہ کے برابر ہوئے۔ اس طرح پورا سال ہو گیا۔ پس سال بھر کا حساب پورا کرنے کے لئے مستقلاً قضا اور شش عید دونوں جدا رکھنے ہوں گے۔ (یہ مقدار) تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب رمضان سمیت چھتیس روزوں کا عدد پورا ہو اور چھتیس کا عدد تداخل میں پورا کیسے ہوگا۔ ہاں اگر علاوہ قضاء رمضان کے کسی اور واجب کو شوال میں ادا کرے تو پھر شاید تداخل ہو سکے۔ اگر کوئی مانع ثابت نہ ہو اور نماز میں تداخل ہونا روزہ کے تداخل کو مستلزم نہیں اور شوال کی تخصیص اس لئے ہے کہ شش عید کے روزوں کا ثواب جو دو ماہ کے برابر ہو گا وہ دو ماہ رمضان ہی کے برابر شمار ہوں گے۔ یعنی ان روزوں کا ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے رمضان شریف کے روزوں کا بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ذیقعدہ یا کسی دوسرے مہینوں میں رکھے تو اس کی فضیلت رمضان کے روزوں کے برابر نہ ہوگی بلکہ مطلقاً تصاعف ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ عام ہے۔ من جاء بالحسنة اخرج

## فصل نمبر ۸:..... نیت کا بیان

حدیث ”انما الاعمال بالنیات“:

الاعمال بالنیات جو حدیث شریف میں آیا ہے یہ مباحات اور طاعات کے تعلق ہے معاصی میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ طاعت میں اگر نیت نیک ہوگی تب تو وہ مقبول ہیں، اسی طرح مباح ہیں اگر نیت دین کی ہو تو وہ دین ہو جاتا ہے اور یہ نہیں کہ معاصی میں نیت نیک کرنے سے وہ معاصی بن جائیں۔

## ”انما الاعمال بالنیات“ کا اصولی اختلاف:

انما الاعمال بالنیات وانما لامری مانوی فمن كانت هجرته الخ اس حدیث کا پہلا جز انما الاعمال بالنیات بتلا رہا ہے کہ اعمال شرعیہ کا ثواب بغیر نیت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اعمال کی تفسیر اعمال شرعیہ سے اس لئے کی گئی کہ شارع علیہ السلام کو اعمال غیر شرعیہ سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر آگے ہجرت کا ذکر فرمانا اس کا قرینہ ہے۔

اور ثواب الاعمال سے تفسیر اس لئے کی گئی کہ وجود اعمال بغیر نیت کے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے۔ لہذا توقف وجود اعمال علی النیۃ شارع کا مقصود نہیں ہو سکتا۔ یعنی شارع کا یہ مقصد نہیں کہ اعمال کا وجود ہی نیت پر موقوف ہے اور بغیر نیت کے اعمال وجود میں آئی نہیں سکتے۔ کیونکہ اول تو یہ خلاف واقع ہے۔ دوسرے وجود اشیاء بھی ان امور کے قبیل سے ہے جو شارع علیہ السلام کی بحث سے خارج ہیں۔ (اس لئے کہ بہترے کام بندے سے بھول چوک میں صادر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بندہ ان کا ارادہ نہیں کرتا۔)

شارع کا مقصود احکام کا بیان کرنا ہوتا ہے نہ کہ بیان کیفیات و وجود کا۔ اب اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں صحت اعمال مراد ہے یا ثواب اعمال۔ سو اس کا جواب حنفیہ نے کتب فقہ میں دے دیا ہے کہ چونکہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہونا اجماعی ہے اس لئے تقدیر صحت سے تقدیر ثواب ادنیٰ ہے۔ اور ثواب و رضاء باہم قریب قریب ہیں۔ جب حق تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دیں گے تو اس سے راضی بھی ہوں گے۔ دوسرے ثواب سے بھی رضاء ہی مقصود ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ رضائے ثواب کی اعلیٰ فرد ہے۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے ہجرت کے متعلق صاف فرمادیا کہ اگر اس سے خدا مطلوب نہ ہو تو وہ شرعاً قابل قدر اور لائق اعتبار نہیں اور اس سے خدا تک وصول نہیں ہوا۔ اسی طرح جملہ افعال شرعیہ میں غور کر لیا جائے کہ مقصود کی نیت اور قصد سب میں شرط ہے بدون اس کے وہ موجب وصول نہیں ہو سکتی۔ نصوص شرعیہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بدون نیت کوئی عمل مقبول نہیں۔ ۱۔

کیا بغیر نیت کے بھی ثواب مل سکتا ہے:

دیکھئے اگر کوئی اپنے باپ یا لڑکے کو کچھ دے تو نیت ثواب انتفاع نہیں ہوتی لیکن ثواب ملتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ بیوی کو کوئی ثواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو ثواب کی نیت کی خبر ہو جائے تو اس کو ناگوار ہو اور وہ انکار کر دے کہ کیا میں خیرات خوری ہوں۔ ۲۔

بغیر نیت کے ثواب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق:

قاعدہ: یہاں اہل علم کو یہ شبہ ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات ارشاد ہے پھر بدون قصد کے ثواب کیسے ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بلا نیت کے اعمال کا ثواب تو نہیں ہوتا لیکن غیر اختیار خیر کا ہوگا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کھیتی کرے۔ پودے یا کوئی درخت لگا دے اور اس میں سے کوئی انسان یا بہیمہ (جانور) کھائے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ دیکھئے یہاں نیت کہاں ہے بلکہ اس کے خلاف کی نیت اور کوشش ہے کہ کھانے والے کو رد کرتا ہے کھلانے کی نیت تو کہاں۔ اگر بہائم کو کھاتا ہو ادیکھ لے تو ڈنڈوں سے



خبر لے تو دیکھئے جس انتفاع کا وہ مخالف ہے اور اپنے عمل سے اس پر دلالت پر بھی قائم کر رہا ہے کہ میری نیت اس کی نہیں ہے پھر بھی اجر ملتا ہے، تو بلا نیت اجر ملتا صرف سعیت بدون مباشرت کے ثابت ہو گیا۔ غرض اعمال اختیار یہ کا ثواب نیت پر موقوف ہے نہ کہ اس خبر کا جس کا یہ بلا قصد سبب بن گیا ہے۔

### نیت کرنے کا قاعدہ:

فرمایا افعال اختیار یہ میں صرف ابتداء ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس فعل میں اگر ابتداء ہو تو ہر چیز پر نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ البتہ مضاد (یعنی اس کے خلاف) کی نیت نہ ہونا شرط ہے، جیسے کوئی شخص بازار جانا چاہتا ہے تو اول قدم پر تو قصد کرنا پڑے گا پھر چاہے کتاب دیکھتے ہوئے جائے یا باتیں کرتے ہوئے، ہر قدم پر قصد کی ضرورت نہیں۔

نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے لیکن معصیت مباح نہیں ہوتی:

نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی، خواہ اس میں ہزار <sup>مصلحتیں</sup> و <sup>منفعتیں</sup> ہوں، اور یہ قاعدہ تو بہت ہی بدیہی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے غضب (ڈاکہ) و ظلم کرے کہ مال جمع کر کے محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز غضب ظلم جائز نہیں ہو سکتا، خواہ لاکھوں فائدے اس پر متفرع ہوں۔

## انفاق فی سبیل اللہ میں نیت کے اعتبار سے تین قسمیں:

نیک کام میں خرچ کرنا باعتبار نیت کے تین قسم کا ہے۔ ایک نمائش کے ساتھ اس کا کچھ ثواب نہیں۔ دوسرے ادنیٰ درجہ کے اخلاص کے ساتھ اس کا ثواب دس حصہ ملتا ہے۔ من جاء بالحسنة الخ میں اس ادنیٰ ہی کا بیان ہے۔ تیسرے زیادہ اخلاص یعنی اس کے اوسط یا اعلیٰ درجہ کے ساتھ، اس کے لئے اس آیت میں وعدہ ہے دس سے زیادہ درجات سو تک علیٰ حسب تفاوت المراتب۔



## الباب الثامن

### تعریفات

اسلام کی حقیقت اور اس کی تعریف:

میں اس وقت اسلام کو دوسرے عنوان سے بیان کروں گا کہ اس عنوان سے بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اسلام کا لفظ زبانوں پر اس درجہ شائع ہو گیا ہے کہ اس کے مفہوم کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوتا۔

تو سنئے اسلام کے معنی لغت میں سپرد کرنے کے ہیں۔ جس کو تسلیم بھی کہتے ہیں، جس کو صوفیاء نے تفویض سے تعبیر کیا ہے۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ مگر اب لفظ اسلام سے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ قرآن میں کہیں اسلام کا ذکر مجملاً ہے، کہیں مفصل اور مفصل بمعنی تفویض ہی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بلسی من اسلم وجہہ الی اللہ الخ۔ دوسری جگہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ الخ اور ومن یسلم وجہہ الی اللہ الخ۔ یہاں اسلام وجہ کے ساتھ اتباع ملت ابراہیمی کا بھی ذکر ہے اور دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ومن یرغب عن ملة الخ جس سے معلوم ہوا کہ ملت ابراہیم بھی اسلام وجہ لرب العلمین ہے کہ اپنے کو خدا کے سپرد کر دے جس کو ایک مقام پر حضرت ابراہیم نے بیان فرمایا۔ انسی وجہت وجہی للذی الخ۔

تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اسلام کی تفسیر اسلام وجہ ہے جس کے پورے معنی نماز روزہ کے نہیں ہیں بلکہ اسلام وجہ بمعنی تفویض ہے۔ یعنی اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دینا اور اپنے کو ہر تصرف الہی کے لئے آمادہ کر دینا کہ وہ جو چاہیں کریں جو چاہیں حکم دیں،

سب منظور ہے۔ نماز روزہ بھی اس تفویض کا ایک فرد ہے، لیکن عین نہیں۔

اگر قرآن میں اسلام کا استعمال اطلاق کے ساتھ ہوتا اور اس کے ساتھ وجہ اللہ یا وجہ الی اللہ مذکور نہ ہوتا تو یہ بھی احتمال تھا کہ اسلام بمعنی طاعت ہے۔ مگر ان قیود کے ساتھ اطاعت کے معنی نہیں بنتے بلکہ تفویض ہی کے معنی مستقیم ہوتے ہیں۔

شُرک اور عبادت کی تعریف:

عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے نہایت تضرع و تذلل سے پیش آنے کو اور شرک جس کی نسبت وعید ہے ان اللہ لا یغفر الخ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا۔ ۱

مشرک و شرک اکبر اور استقلال کی تعریف:

استقلال کے اعتقاد کو جو شرک کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسا متصرف مانا جائے کہ قوت تصرف کی تو حق تعالیٰ ہی سے عطا ہوتی ہے مگر بعد عطا پھر صرف اس کا ارادہ اس تصرف کے لئے کافی ہو جائے۔ حق تعالیٰ کے ارادہ جزئیہ کی حاجت نہ ہوگی۔ گو اس قوت کا سلب کر لینا بھی حق تعالیٰ کے اختیار میں ہو مگر جب تک سلب نہ فرمائیں اس وقت تک صرف اس کا ارادہ کافی سمجھا جائے۔ حق تعالیٰ کے ارادہ پر موقوف نہ مانا جائے۔ بزرگوں کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے بلا شک کافر و مشرک ہے، اور شریعت میں کافر و مشرک ایسے ہی مشرک کو کہتے ہیں اور یہ شرک اکبر ہے۔ ۲

شرک اصغر کی تعریف:

اگر ان بزرگ کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ وہ مشیت ایزدی کے محتاج تو ہیں اور اذن جزئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر ان کے چاہنے کے وقت مشیت ایزدی ہو ہی

جاتی ہے تو گویا یہ شرک و کفر نہیں مگر کذب فی الاعتقاد و محصیت و شرک اصغر ہے اور یہ پہلا درجہ شرک اکبر ہے۔

### اقسام شرک: شرک فی العلم:

کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، یا کسی کو دوز سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔ ۲

### شرک فی التصرف:

کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا۔ ۳

### شرک فی العبادۃ:

کسی کو عبادہ کرنا کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا۔ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کا کعبہ کا سا ادب کرنا۔ ۴

### شرک فی العادۃ:

کسی کے نام پر بچہ کے کان، ناک چھیدنا، بالی پہنانا، کسی کے نام کا دھاگہ بازو پر باندھنا، سہرا باندھنا، چوٹی رکھنا، علی بخش، حسین بخش وغیرہ نام رکھنا۔ کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ ۵

۱۔ القول الجلیل صفحہ ۱۱۔ ۲۔ تعلیم الدین صفحہ ۱۳۔ ۳۔ تعلیم الدین صفحہ ۱۳۔ ۴۔ (۱) حوالہ مذکور صفحہ ۱۴۔ ۵۔ تعلیم

کفر و ایمان ارتداد و نفاق شرک، کتابی اور دھری کی تعریف:

وہ شرک جس پر عدم نجات و غلوطی النار مرتب ہے اس کی تعریف یہ ہے جو حاشیہ خیالی میں شرح مقاصد سے نقل کی ہے۔ ان الکافران اظہر الایمان فهو المنافق، وان طرا کفره بعد الایمان فهو المرتد وان قال بالشریک فی اللوہیة فهو المشرک۔ وان تدین بدین من الادیان والکتب المنسوخة فهو الکتابی، وان ذهب الی قدم الدھر و اسناد الحوادث الیہ فهو الدھری، وان کان لایثبت الباری فهو لمخطل، وان کان مع اعترافہ بنبوۃ النبی یبطن عقائدہی کفر بالاتفاق فهو الزندق۔ فاحفظہ فانہ تفصیل حسن۔

الکفر ضدا ایمان ای انکار ماجاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کما ان الایمان هو التصدیق۔ ۱

فتنہ کی تعریف:

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خوف فتنہ جان کے اندیشہ کو کہتے ہیں، یعنی جہاں مار پیٹ کا اندیشہ ہو باقی محض زبانی سب و شتم کو فتنہ نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور آج کل ایسا فتنہ کہ دوسرے کو مارے پیئے مشکل سا معلوم ہوتا ہے۔ ۲

قربتہ مقصودہ کی تعریف:

قربتہ مقصودہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خدا تعالیٰ نے ثواب و اجر کا وعدہ فرمایا

ہو۔ ۳

## محال شرعی کی تعریف:

محال شرعی وہ ہے جس کے وقوع سے کسی خبر شرعی کا کذب لازم آئے جیسے ختم نبوت کے بعد کسی کو نبوت عطاء ہونا و مثلاً باقی مغفرت جمیع ذنوب جمیع المؤمنین کو محال شرعی کہنا اس پر مبنی ہے کہ مغفرت کی تفسیر میں بلا عقوبت کی قید لگائی گئی جس پر کوئی دلیل نہیں۔ ۱

مفسدہ دو ہیں تغیر مشروع اور ایہام جاہل سوا یک عالم کے عقائد میں۔ ایسا فساد کہ تغیر مشروع کی نوبت آئے اگر مستبعد بھی ہو مگر ایہام جاہل یعنی یہ کہ ان کے عمل سے عوام فساد میں مبتلا ہو جائیں گے ہرگز مستبعد نہیں۔ ۲

## مخالفت نص کی تعریف:

جو امر کہ نص میں مسکوت عنہ ہو اس کا دعویٰ کرنا کسی قرینہ سے نص کی مخالفت نہیں۔ البتہ امر مثبت فی النص کی نفی یا مفعلی الی النص کا اثبات یہ مخالفت نص کی ہے۔ ۳

## اسراف کی تعریف:

عرض کیا گیا کہ اسراف کی حد کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اجازت شرعی کے خلاف ہو وہ اسراف ہے خواہ بظاہر نیک ہی کام ہو۔ مثلاً جس پر بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہو اس کو سارا مال خیرات کر دینا اسراف ہے اور کھانے پینے میں وسعت کرنا بشرطیکہ کسی حد شرعی سے تجاوز لازم نہ آئے اسراف میں داخل نہیں۔ ۴

۱ بدائع صفحہ ۵۱۔ ۲ یوادر صفحہ ۲۰۲۔ ۳ صفحہ ۲۸۰۔ ۴ حسن العزیز صفحہ ۶۶ ج ۱۔

## تجسس کی تعریف:

تجسس اس کو کہتے ہیں کہ جو باتیں کوئی چھپانا چاہتا ہو اس کو دریافت کرنے کے پیچھے پڑنا۔

## رشوت کی تعریف:

فرمایا کہ رشوت کی جامع تعریف جو تمام اقسام رشوت پر حاوی ہے یہ ہے کہ کسی غیر منقول چیز کا عوض لینا۔ ۲

## شرعی ضرورت کی تعریف اور اس کے اقسام:

ضروری چیز کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی ضرر مرتب ہو۔ تحقیق یہ ہے کہ ضرورت کی عربی دو قسمیں ہیں۔ ایک تحصیل منفعت خواہ دینی ہو یا دنیوی، خواہ اپنی ہو یا غیر کی، دوسری دفع مضرت اسی تقیم کے ساتھ سو تحصیل منفعت کے لئے تو ایسے افعال (ناجاز مناصب) کی اجازت نہیں، مثلاً تحصیل قوت و لذت کے لئے دوائی حرام کا استعمال یا اجتماع لاستماع الوعظ کے لئے آلات لہو و غنا کا استعمال۔

اور دفع مضرت کے لئے اجازت ہے جبکہ وہ مضرت قواعد صحیحہ منصوصہ یا اجتہاد یہ سے معتد بہا ہو اور شرعی ضرورت یہی ہے۔ مثلاً دفع مرض کے لئے دوائے حرام کا استعمال جبکہ دوسری دوا کا نافع نہ ہونا تجویہ سے ثابت ہو گیا ہو کیونکہ بدون اس کی ضرورت ہی کا تحقق نہیں ہوگا۔ ۳



## ضرورت کی تعریف میں عموم:

”فرض ستر“ ضرورت میں ساقط ہو جاتا ہے اور سنت کی ضرورت مباح کی ضرورت سے بڑھ کر ہے اور تداوی محض مباح ہے (جب) اس کے لئے نظر اور لمس جائز ہے تو خنثہ کے لئے بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔

## ضرورت کا معیار اور اس کے درجات:

ہر چیز کی ضرورت کا معیار یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو وہ ضروری ہے اور جس کے بغیر تکلیف نہ ہو وہ غیر ضروری ہے۔ اب اگر اس میں اپنا دل خوش کرنے کی نیت ہے تو مباح ہے اور اگر دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی نیت ہو تو حرام ہے۔ پھر ضرورت کے بھی درجات ہیں۔ ایک یہ کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے یہ تو مباح کیا واجب ہے، دوسرے یہ کہ ایک چیز کے بغیر کام تو چل سکتا ہے مگر اس کے ہونے سے راحت ملتی ہے اگر نہ ہو تو تکلیف ہوگی گو کام چل جائے گا مگر دقت سے چلے گا۔ (یہ بھی جائز ہے) (تیسری قسم یہ کہ) جس کے بغیر کوئی کام نہیں اٹکتا نہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی۔ مگر اس کے ہونے سے اپنا دل خوش ہوگا یہ بھی جائز ہے بشرط وسعت اس میں بھی مضائقہ نہیں۔

(چوتھی قسم یہ کہ) دوسروں کو دکھانے اور ان کے نظر میں بڑا بننے کے لئے کچھ سامان رکھا جائے یہ حرام ہے۔

ضرورت اور غیر ضرورت کے درجات جو میں نے بیان کئے یہ لباس اور زیور کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ درجے ہر چیز میں ہیں۔

مثال کے طور پر عمدہ لباس اگر اپنا جی خوش کرنے کے لئے یا اپنے کو ذلت سے بچانے کے لئے یا دوسرے شخص کے اکرام کے لئے پہنے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ فلاں جگہ تشریف فرما ہیں تو ہم یقیناً عمدہ لباس پہن کر جائیں گے اور اس وقت مقصود حضور ﷺ کی تعظیم ہوگی۔ انسان اپنے معظم کے سامنے اچھے ہی لباس میں جایا کرتا ہے تاکہ اس کی عظمت ہو۔

ہاں عمدہ لباس اس نیت سے پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں اپنی بڑائی ثابت کی جائے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ لباس (اور اشیاء زینت) میں چار درجے ہیں۔ ایک تو ضرورت کا درجہ ہے۔ دوسرے آسائش کا، تیسرے آرائش یعنی زینت کا۔ یہ تین درجہ تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور چوتھا درجہ نمائش کا ہے۔ یہ حرام ہے۔

اور یہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چیز میں بھی چار درجے ہیں۔ ایک ضرورت دوسرے آسائش، تیسری آرائش، چوتھے نمائش کا۔

### ضرورت کی تعریف:

ضرورت کی حقیقت یہ ہے کہ بدون اس کے کوئی ضرر لاحق ہونے لگے اور ضرر سے مراد حرج اور تنگی اور مشقت ہے۔ ۲

### سنخ کی تعریف:

قاضی ثناء اللہ صاحب نے تصریح کی ہے اور خوب ہی فرمایا ہے کہ سنخ اصطلاح سلف میں بیان تفسیر و بیان تبدیل دونوں کو عام ہے۔ پس بعض صحابہ کا اس کو پہلی آیت کے لئے ناخ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہوگئی اور

بتلا دیا کہ حَقُّ نَفَاتَةٍ سے مراد وہ تقویٰ ہے جو تمہاری استطاعت میں ہو۔ جتنا استطاعت میں ہو جتنا تقویٰ تم سے ہو سکے کہ وہ حق نفاتہ میں داخل ہے۔ ا۔  
سلف میں تو صیح مراد کو بھی شیخ کہہ دیا کرتے تھے۔ ب۔

### شرعی قدرت و استطاعت کی تعریف و تقسیم:

خوب سمجھ لیجئے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر تو ہم کو قدرت ہے، لیکن اس کے کر لینے کے بعد جن خطرات کا سامنا ہوگا ان کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل پر بھی قدرت ہے اور اس کے کر لینے کے بعد جو خطرات پیش آئیں گے ان کی مدافعت پر قدرت ہو۔ پہلی صورت استطاعت لغویہ ہے، اور دوسری صورت استطاعت شرعیہ ہے۔ خوب سمجھ لیجئے گا۔

اور مدافعت کی فرضیت کے لئے پہلی استطاعت کافی نہیں بلکہ دوسری استطاعت شرعیہ شرط ہے، جس کو اس حدیث نے صاف کر دیا ہے۔ من رای منکم منکر ا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فیلسانہ فان لم یستطع فلیقلبہ۔ ظاہر ہے کہ استطاعت باللسان ہر وقت حاصل ہے، پھر اس کے نفی کی تقدیر کب محقق ہوگی۔ یعنی اگر کسی فعل کی فرضیت کے لئے محض فعل پر قادر ہونا کافی ہو اور اس سے جو خطرات پیش آنے والے ہوں ان کی مدافعت پر قادر ہونا شرط نہ ہو تو زبان سے انکار کرنا ہر حالت میں فرض ہونا چاہئے کیونکہ زبان کا چلانا ہر وقت ہماری قدرت میں ہے۔ پھر وہ کوئی صورت ہوگی جس کی نسبت حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے مٹانے کی قدرت نہ ہو تو دل سے مٹا دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس فعل پر قدرت ہونے کے ساتھ اس میں ایسا خطرہ بھی نہ ہو جس کی مقاومت اور مدافعت و مقابلہ بظن غالب عاۃً ناممکن ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس دفاع کے بعد

اس سے زیادہ شرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

عن ابن عمر سمعت الحجاج یخطب فذکر کلاماً انکرته  
فاردت ان اغیره فذکرت قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمومن  
ان ینذل نفسه قلت یارسول اللہ کیف ینذل نفسه قال یتعرض من البلاء لما  
لا یطیق للبزار والکبیر والاوسط. (ابو امامہ) رفعه اذا راہتم امراً  
لا تستطيعون غیره فاصبروا حتی یکون اللہ هو الذی ینصرکم لکبیر ینضعف.  
(لکن الحکم ثابت بالقطعیات) کذا فی جمع القوائد. ۲

### مسکوت عنہ اور منہی عنہ کی تعریف:

جن چیزوں کی حاجت خیر القرون میں نہ ہوئی، اور خیر القرون کے بعد حاجت  
پیش آئی اور نصوص ان کے خلاف نہ ہوں تو وہ مسکوت عنہا ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان  
چیزوں کی تو ہمیشہ حاجت پیش آتی رہی ہے پھر بھی نصوص میں صرف جہاد یا صبر ہی کا  
حکم ہے تو اس اعتبار سے یہ مسکوت عنہ نہ ہوگا کہ باوجود ضرورت کے متقدمین نے اس  
کو ترک کیا اختیار نہیں کیا تو اجماع ہو اس کے ترک پر اس لئے ممنوع ہوگا۔ ۳

### ترک (کف النفس کی) تعریف و تقسیم:

ترک معصیت بھی طاعت ہے ترک سے وہی ترک مراد ہے جس کی ابتداء  
بالقصد والیدۃ ہو اسی ترک کو کف النفس کہا جاتا ہے بشرطیکہ مضاد (یعنی ضد) کا ارادہ  
طاری نہ ہو جائے۔ ۴

۱۔ اقادات اشرفیہ صفحہ ۱۰، ملفوظات اشرفیہ صفحہ ۹۷، الاقاضات صفحہ ۱۱۰ ج ۱، بواہر صفحہ ۹۳ ج ۲۔ ۲۔ اقادات

اشرفیہ صفحہ ۵۲۔ ۳۔ الاقاضات صفحہ ۱۱۶، ۴۔ بواہر صفحہ ۵۸ ج ۲۔

ترک (وکف) کی دو قسمیں ہیں ترک وجودی، و ترک عدی، جس ترک کا انسان مکلف بنایا گیا ہے وہ ترک وجودی ہے جو اپنے اختیار و قصد سے ہو۔ مثلاً کوئی عورت چلی جا رہی ہے جی چاہا کہ لاؤ اسے دیکھیں پھر نگاہ کو روک لیا اجرا سی ترک پر ملتا ہے اور ترک عدم وہ ترک ہے کہ اپنے قصد و اختیار کا اس میں کچھ خلل نہ ہو۔ مثلاً اس وقت ہم ہزاروں گناہوں کو نہیں کر رہے ہیں تو اس پر اجر بھی نہیں ملتا۔ ۱۔

### تقلید شخصی کی تعریف:

تقلید کہتے ہیں اتباع کو اور تقلید شخصی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں کسی مرجح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے۔ ۲۔

### تشبہ کی تعریف:

پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلاں نے لوگوں کی ہے مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا۔ دھوتی باندھنا یا عورتوں کو لہنگا پہننا۔ ۳۔

### تحریف کی تعریف:

تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تقاسیر یا دونوں کو بدل ڈالنا ہے۔ ۴۔

### حدیث متواتر کی تعریف:

اصول حدیث میں یہ قاعدہ مذکور ہے کہ اگر طرق و رواۃ حدیث میں اتنا تعدد ہو کہ عقل تو اطمینان علی الکذب کو تجویز نہ کر سکے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے تو اتر میں کوئی

۱۔ کلمات اشرفیہ صفحہ ۳۲۔ ۲۔ افاضات صفحہ ۳۲۵ ج ۶ نمبر ۲۔ الاقتصاد صفحہ ۳۲۔ ۳۔ حیات المسلمین صفحہ

۲۲۲۔ ۴۔ بیان القرآن صفحہ ۴۲ ج ۱۔

عدو خاص معتبر نہیں بلکہ اس کی حد یہی ہے جو مذکور ہوئی۔

### اذن بطیب نفس (دلی رضامندی) کی تعریف:

اذن بطیب نفس کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو عدم اذن پر بھی قدرت ہو اور تجربہ ہے کہ پیر کے استیذان کے بعد یہاں کے مرید عدم اذن پر قادر نہیں اس لئے یہ اذن معتبر نہیں۔

پس آج کل اذن کے بعد بھی بدون شہادت قلب کے عمل نہ کیا جائے۔ ۲

### شبہ کی تعریف:

شبہ کس کو کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں مشابہ حقیقت کو اور مشابہ کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں، کبھی مشابہت قوی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف۔ امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لئے ادنیٰ درجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے۔ ۳

### غیبت کی تعریف:

کہنے والے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہی تذکرہ اگر بعینہ اسے پہنچا دیا جائے تو وہ ناراض نہ ہوگا تو یہ غیبت نہیں۔ اس تذکرہ سے (اگر) اصلاح کا تعلق ہو یا بطور حزن کے تذکرہ کیا جائے تو یہ غیبت نہیں۔ ۴

غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو رنج ہو گو وہ سچی ہی بات ہو اور نہ بہتان ہے اور پیٹھ پیچھے کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سامنے جائز ہے کیونکہ وہ لمز میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ ۵

۱ امداد الفتاویٰ صفحہ ۳۵۱ ج ۵۔ ۲ انفاہ عیسیٰ صفحہ ۳۱۵۔ ۳ حسن العزیز صفحہ ۳۶۲ ج ۴۔ ۴

طوطات صفحہ ۷۲۔ ۵ بیان القرآن صفحہ ۴۷ ج ۱۱

## ذلت کی تعریف:

فرمایا کہ ذلت کہتے ہیں عرض احتیاج کو اگر آدمی کچھ سوال نہ کرے تو کچھ ذلت نہیں چاہے لگنو نہ باندھے پھرے۔

## اشراف نفس کی تعریف:

اشراف مطلق انتظار بمعنی احتمال کو نہیں کہتے بلکہ خاص اس انتظار کو جس کے یہ آثار ہوں کہ اگر نہ ملے تو قلب میں کدورت ہو، اس پر غصہ آئے اور اس درجہ کا اشراف (مطلق انتظار) بھی اہل توکل کے لئے مذموم ہے اور اہل حرفہ کے لئے مذموم نہیں۔

## دنیا کی تعریف:

دنیا اصل میں اس حالت کا نام ہے جو نبوت کے قبل انسان پر گذری ہے، خواہ محمود ہو یا مذموم، اگر وہ مانع عن الآخرة ہے تو دنیا مذموم ہے اور اکثر لفظ دنیا اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر مانع عن الآخرة نہیں تو دنیا محمود ہے۔ ۳

## مولوی کی تعریف:

مولوی عربی داں کو نہیں بلکہ احکام داں کو کہتے ہیں ورنہ ابو جہل بہت بڑا مولوی ہوتا۔

## واردات کی تعریف:

ان امور کی طرف کسی کی نظر بلا سوچے سمجھے اور خود بخود پہنچے اور بے ساختہ اس کے قلب میں ایسی باتیں آئیں اور وہ شخص ایسے امور پر عمل کرنے کو واجب بھی نہ سمجھے بلکہ محض اپنا دل صاف کرنے کی غرض سے ان پر عمل کرے تو تعقیق اور غلو فی الدین نہیں ہے، بلکہ بصیرت اور علم اور نعمت ہے اور ایسے حالات کو اصطلاح فن تصوف میں واردات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ان واردات پر عمل کرنا چاہئے۔

فرمایا کہ احوال کے مقابلہ میں مقامات ہیں اور وہ مطلوب ہیں اور مقامات اصطلاحات صوفیہ میں اعمال تکلیفیہ متعلقہ بالقلب کو کہتے ہیں۔ گویا جن امور باطن کا حکم قرآن و حدیث میں ہوا ہے جس کو علم المعاملہ کہتے ہیں وہی صوفیہ کی اصطلاح میں مقام ہے اور وہ موجب قرب ہے۔ ۲

## ولی کی تعریف:

میں کہتا ہوں کہ نظر الہی ظاہر کسی کو شیخ، زاہد، عارف، عاشق، سالک، کہنا تو جائز ہے لیکن ولی اللہ کہنا ناجائز ہے کیونکہ ولایت یعنی قرب خاص و مقبولیت امر مخفی ہے۔ اس کا دعویٰ شہادۃ من غیر علم میں داخل ہے۔ اگر کسی شخص کو ولی اللہ کہنا ہو تو یہ تعبیر ہونا چاہئے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص ولی ہے باقی حقیقتہً الجال سے علام الغیوب ہی واقف ہے۔ ۳



## نفس اور مجاہدہ کی تعریف:

مجاہدہ کی حقیقت مخالفت نفس ہے اور نفس کی فطرت آزاد پسند ہے اور نفس کی حقیقت صوفیہ کے نزدیک ایک جوہر ہے جو داعی الی الشر ہے آگے صفات کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ ۱۔

## کرامت کی تعریف:

کرامت اس امر کو کہتے ہیں کہ جو نبی ﷺ کے کسی قبیح کامل سے صادر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو اور اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہو تو کرامت نہیں۔ اور اگر وہ شخص نبی کا قبیح نہ ہو وہ بھی کرامت نہیں، جیسے جو گیوں و ساحروں سے بعض امور سرزد ہوتے ہیں۔ ۲۔

## تصوف کی تعریف:

تصوف نام ہے باطن کو رذائل سے خالی کرنے اور فضائل سے آراستہ کرنے کا جس میں توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ ۳۔  
اصطلاح و عرف میں تصوف اس علم کا نام ہے جس پر عمل کرنے سے باطن کی وہ صفائی نصیب ہوتی ہے جس سے انسان بارگاہ الہی میں مقبول اور صاحب مدارج و مقام ہوتا ہے۔ ۴۔

## خشوع و خضوع کی تعریف:

خشوع لغتہ مطلقاً سکون کا نام ہے اور شرعاً سکون جو ارج جس کی حقیقت ظاہر ہے، اور سکون قلب جس کی حقیقت حرکت فکر یہ کا انقطاع ہے۔ ۵۔

## نسبت کی تعریف:

نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ اور تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص قسم کا تعلق یعنی اطاعت اور ذکر غالب کا اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا، جیسا کہ عاشق مطہج اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے۔

## تفویض اور عشق کی تعریف:

عشق لو ازم ایمان میں سے ہے۔ عشق کی حقیقت تفویض ہے کہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے جس طرح چاہیں ہم میں تصرف کریں۔ تشریحاً بھی تکویناً بھی، اور ہم ہر حال میں راضی رہیں، یہی حقیقت ہے تفویض کی۔

## توجہ و تصرف کی تعریف:

یہ ہے کہ خاص محمود و پسندیدہ کیفیات کو کسی دوسرے پر فائز یا طاری کر دیا جائے جس سے اس میں خاص آثار پیدا ہو جائیں، اس کو اہل تصوف کی اصطلاح میں تصرف و توجہ کہتے ہیں۔

## وجد کی تعریف:

وجد حالت غریبہ محمودہ غالبہ کا نام ہے۔ مثلاً غلبہ شوق یا غلبہ خوف، اور اس کے لئے چلانا یا کودنا لازم نہیں اور اس حالت وجد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔  
تقشعر منه جلود الذین الخ۔

## استدراج اور کشف و کرامت کی تعریف:

کرامت اس امر کو کہتے ہیں جو نبی ﷺ کے کسی متبع کامل سے صادر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو، اور اگر وہ امر عادت کے خلاف نہیں تو کرامت نہیں اور جس سے وہ امر صادر ہوا ہے اور وہ نبی کا متبع نہیں جیسے جوگیوں، ساحروں وغیرہ سے ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر اتباع کا دعویٰ تو ہے مگر واقع میں متبع نہیں جیسے اہل بدعت اور فاسق و فاجر وہ بھی کرامت نہیں استدراج ہے، بس کرامت وہ کہلائے گی جب ایسے فعل کا صدور کامل اتقویٰ سے ہو۔

## زہد کی تعریف:

زہد ترک لذات کا نام نہیں محض تقلیل لذات کافی ہے۔ یعنی لذت میں انہماک نہ ہو کہ رات دن اسی فکر میں رہے کہ یہ چیز کتنی چاہئے وہ چیز منگانی چاہئے، نفیس نفیس کھانوں اور کپڑوں ہی کی فکر میں لگا رہنا، یہ البتہ زہد کے منافی ہے ورنہ بلا تکلف اور بلا اہتمام خاص لذات میسر آ جائیں تو یہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے شکر کرنا چاہئے۔ ۲

## حرص کی تعریف:

حرص کے معنی یہ ہیں کہ نہ ملنے کی صورت میں تلاش کرنا اور قلب کا اس طرف بھنچنا یہ اگر پایا جائے تو واقعی مرض ہے۔ ۳

## صوفی کی تعریف:

فرمایا کہ صوفی کا ترجمہ میرے نزدیک عالم باعمل ہے۔ لوگوں نے اس میں نہ جانے کیا کیا شرطیں لگائی ہیں جو اس تعریف کا جز نہیں۔ ۴

## نفس کی تعریف و تقسیم:

نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر، اگر اکثر شر کی خواہش کرے اور نادم بھی نہ ہو اس وقت امارہ کہلاتا ہے۔ یعنی اور کبھی کبھی اس میں خیر کی بھی خواہش پیدا ہو جاتا اس مفہوم کے منافی نہیں کیونکہ کثیر الامر کو دائم الامر ہونا لازم نہیں۔ اور اگر نادم بھی ہونے لگے تو لواہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اکثر خواہش خیر کی کرے اس وقت مطمئن کہلاتا ہے۔

## جذب کی تعریف و تقسیم:

بلاد واسطہ اکتساب و مجاہدہ جو احوال باطنیہ حاصل ہو جاتے ہیں اس کو جذب کہتے ہیں اور اجنباء و محبوبیت اور مرادیت بھی کہتے ہیں۔  
**علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی تعریف:**  
 یقین کہتے ہیں اعتقاد جازم مطابق للواقع کو، اگر ادراک کا صرف یہی مرتبہ ہے تو علم الیقین ہے، اور اگر اس کے ساتھ غلبہ حال بھی ہو لیکن اس غلبہ میں مدرک سے غیبت نہ ہو تو عین الیقین ہے اور اگر ایسا غلبہ ہے کہ غیر مدرک سے غیبت بھی ہے تو حق الیقین ہے۔ اسی کو کتب فن میں مختلف عنوانات سے لکھا ہے۔

## حقیقت اور معرفت کی تعریف:

اعمال باطن کی درنگی سے قلب میں جو جلا و صفا پیدا ہوتا ہے اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ، و حقائق الہیہ و صفاتیہ منکشف ہوتے ہیں۔ ان کشوفات کو حقیقت کہتے ہیں اور انکشاف کو "معرفت" کہتے ہیں اور اس صاحب انکشاف کو محقق و عارف کہتے ہیں۔

## کبر کی تعریف:

تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی دنیوی یا دینی کمال میں اپنے کو با اختیار خود دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے تو اس میں دو چیزیں ہیں، اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی حقیقت ہے جو حرام اور معصیت ہے۔

## تکبر کی تعریف:

اپنے کو کسی کمال کے اعتبار سے دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ اس وقت صرف اپنے کمال اور اس کے نقص کی طرف التفات ہو اور یہ حکم ذہن میں نہ ہو کہ شاید یہ شخص اپنے کمال کے سبب مجموعی طور پر مجھ سے برتر درجہ رکھتا ہو۔

## تواضع کی تعریف:

تواضع کے معنی یہ ہوں گے کہ باوجود اپنے کو متصف بالکمال اور باوجود کمال کو متصف بوصف الکمالیۃ سمجھنے کے بھی اپنے آپ کو دوسرے سے اس طرح چھوٹا سمجھنا کہ عین اس وقت میں اپنے نقائص کا اور دوسرے کے کمال متیقن یا محتمل کا استحضار بھی ہو اور اس استحضار سے یہ حکم ذہن میں ہو کہ شاید میں اپنے نقائص کے سبب مجموعی طور پر اس سے کمتر درجہ کا ہوں تواضع یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کو لاشی سمجھے اور بیچ سمجھ کر تواضع کرے اور اپنے کو رفعت نہ سمجھے، اور بیچ مچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔  
تواضع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی اپنے سے نفی کرے بلکہ معنی یہ ہیں کہ ان کو اپنا کمال نہ سمجھے محض فضل رحمت حق سمجھے۔

## عجب کی تعریف:

عجب میں صرف ایک قید کم ہے۔ یعنی عجب میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں ہوتا صرف اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔

## حب جاہ کی تعریف:

حب جاہ کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اپنے کو دل میں بڑا سمجھتا ہے اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی مجھے بڑا سمجھیں اور تعظیم و اطاعت و خدمت کریں اس کا منشاء بھی تکبر و عجب ہی ہے۔

## ریا کاری کی تعریف:

ریا کاری کا حاصل یہ ہے کہ کسی دینی یا دنیوی عمل کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے یہ بھی تکبر و عجب ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

## وقار کی تعریف:

وقار کے خلاف وہ کام ہے جس میں دین پر بات آتی ہو اور جس میں دینی مصلحت پر کوئی اثر نہ پہنچے محض اپنی عرفی سبکی ہو تو ایسا کام کرنا عین تواضع ہے۔

## تعصب کی تعریف:

تعصب کی حقیقت سمجھنا چاہئے۔ تعصب کہتے ہیں ناحق کی فح (حمایت) کرنا۔

## حیا و شرم کی تعریف:

حیا کی تحقیق نہیں کی گئی سو اس کی حقیقت یہ ہے انقباض انفس عما یکرہ (یعنی ناپسندیدہ چیز سے نفس کا اپنے کو بچانا)۔

## بغض فی اللہ کی تعریف:

اگر کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض اور تکبر کرے اس شخص سے بغض کرنا واجب اور عبادت ہے اور بغض فی اللہ یہی ہے۔

## برکت کی تعریف:

برکت کی حقیقت تو معلوم ہے اور وہ لغت میں زیادت کے معنی کیلئے ہے۔ حاصل اس کا کسی شے پر زیادہ نفع کا مرتب ہونا حال کیفیت معلوم نہیں۔

## جہالت بسیرہ کی تعریف:

فرمایا جہالت بسیرہ کی تعریف میرے نزدیک یہ ہے کہ مفضی الی المنازعۃ نہ ہو۔

## طعام واحد کی تعریف:

دو کھانے سے مراد وہ کھانے ہیں جن میں تناسب نہ ہو اور جن میں تناسب ہو وہ واحد کے حکم میں ہیں۔ دیکھئے بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ نے من و سلوئی اتارا یہ دو چیزیں ہیں مگر وہ کہتے تھے کہ طعام واحد چونکہ دونوں میں تناسب تھا اس واسطے ایک کہا۔

۱۔ حقوق العلم صفحہ ۴۰۔ ۲۔ صفحہ ۷۰۔ ۳۔ حسن العزیز صفحہ ۱۳۳، صفحہ ۴۔ ۴۔ حسن العزیز صفحہ ۱۵۹ ج ۴

۵۔ حسن العزیز صفحہ ۲۵۹ ج ۴۔

## اخلاص کی تعریف:

اخلاص کے معنی لغت میں خالص کرنے کے ہیں اور شریعت میں اس کے معنی وہی ہیں جو ورود شرع سے پہلے تھے۔ خالص گھی وہ ہے جس میں کوئی دوسری چیز نہ ملی ہو۔

اخلاص عبادت کے معنی بھی یہ ہوئے کہ عبادت کو غیر عبادت سے خالی کیا جائے۔ یعنی کوئی ایسی غرض اس میں نہ ملی ہو جس کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو۔

## تصوف کی تعریف:

تصوف نام ہے درستی ظاہر و باطن کا۔ ۲

## فتا کی تعریف:

فتا کا حاصل فضول تعلقات کا جاننا رہنا یعنی دنیا کی چیزوں سے جو تعلق اب ہے وہ نہیں رہتا بلکہ وہ تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں کسی درجہ میں محبوب نہ رہیں ان سے بالکل ہی بے تعلق ہو جائے، کوئی واسطہ نہ رہے، یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے، مگر غالب تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان اباؤکم و ابناءکم الخ ۳

## مولوی اور عالم کی تعریف:

مولوی اس کو کہتے ہیں جو مولیٰ والا ہو یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو۔ خوف خدا وغیرہ اخلاق حمیدہ بھی رکھتا ہو۔ صرف عربی جاننے سے آدمی مولوی نہیں ہو جاتا۔



عالم کہتے ہیں متقی تمجست کو۔ کیونکہ مولوی میں نسبت ہے مولیٰ کی طرف۔ یعنی مولیٰ والا سو جب تک وہ اللہ والا ہے اس وقت تک مولوی بھی ہے، لائق اتباع بھی ہے اور جب اس نے یہ رنگ بدلا اسی وقت سے وہ مولوی نہ رہا۔

### مجذوب کی تعریف و تحقیق:

مجذوب خواص کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کے واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے کش ہو جائے جو اس آیت میں مذکور ہے اللہ یجتبیٰ الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یشاء یعنی اللہ کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت کرتا ہے اپنی طرف اس کو جو انا بت کرے۔ ییب کی ضمیر اس شخص کی طرف راجح ہے۔ یہ دونوں دولتیں انا بت اور کھینچ لینا مقبولوں کو نصیب ہوتی ہیں اور جو گمراہ ہوتا ہے نہ اس کی طرف سے انا بت ہوتی ہے نہ ادھر سے جذب ہوتا۔ پس مردود ہو جاتا ہے۔ شیطان جو مردود ہو اسی وجہ سے ادھر سے انا بت نہ ہوئی ادھر سے جذب نہ ہوا، پس گمراہ ہو گیا اور جو مجتبیٰ ہوتے ہیں اگر ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے تو دھودھلا کر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پس اس اصطلاح کے موافق تو جملہ انبیاء مجذوب ہوتے ہیں البتہ عوام کی اصطلاح میں مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کی عقل جاتی رہے اور نبی کوئی ایسے نہیں ہوئے بلکہ سب اعلیٰ درجہ کے دانشمند تھے۔

## الباب التاسع

### الفرق

#### علت و حکمت کا فرق:

علت وجود میں مقدم ہوتی ہے اور حکمت متاخر، پس اپنے زمانہ میں دونوں موجود ہو سکتی ہیں۔ علت کے ساتھ تو حکم وجوداً و عدماً دائر ہوتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ دائر نہیں ہوتا۔ یعنی حکمت کے تبدیل سے حکم نہیں بدلتا اور اس فرق کا سمجھنا راسخین فی العلم کا کام ہے۔

مثلاً شدت سکران موت حضور ﷺ کی کہ اس کی علت قوت مزاج و شدت تعلقہ بالامۃ ہے، اور حکمت مقام صبر کی تکمیل اور ترقی درجات ہے۔

#### جلب منفعت اور دفع مضرت کا فرق:

ضرر اور چیز ہے، عدم النفع اور چیز ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھئے، مثلاً آپ کی جیب میں ایک سو روپیہ کا نوٹ تھا ایک شخص نے آپ سے وہ چھین لیا تو یہ ضرر ہوا، اور اگر میں آپ کو ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں مگر پھر کوئی اس نوٹ کو دینے سے منع کر دے تو اس میں آپ کا کچھ ضرر نہیں بلکہ صرف عدم النفع ہوا۔

## تقلید اور بیعت کا فرق:

ایک شیعہ نے سوال کیا تھا جو بالکل نیا سوال تھا میں بالکل خالی الذہن تھا مگر اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر مدد فرمائی وہ سوال یہ تھا کہ تقلید اور بیعت میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو اور بیعت کہتے ہیں معاہدہ اتباع کو۔

## تصرف اور کرامت کا فرق:

فرمایا تصرف میں قصد بھی ضروری ہے اور علم بھی، اور کرامت میں قصد تو ہوتا ہی نہیں باقی علم بھی ضروری نہیں۔ اب لوگوں نے بزرگوں کے تصرفات کو بھی ان کی کرامتوں میں ٹھونس دیا ہے۔ حالانکہ تصرف اور چیز ہے اور کرامت اور چیز ہے۔

## کشف اور فراست کا فرق:

ایک مشہور مدرسہ کے فاضل نے عرض کیا کہ کشف اور فراست میں کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کشف سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا بلکہ صریحی ہوتا ہے جس سے قناعت ہو جاتی ہے بخلاف فراست کے کہ اس کے اندر ایک درجہ استدلال کا بھی ہوتا ہے۔ گو غالب اس میں علم ضروری ہوتا ہے۔ غرض فراست میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے علم ضروری اور علم استدلالی سے جس کا زیادہ حصہ علم ضروری ہوتا ہے اور مغلوب حصہ علم استدلالی۔ فراست کی ابتداء تو علم ضروری سے ہوتی ہے، اس کے بعد اس امر کو معلوم کرنے کے لئے جو کچھ ہم سمجھے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے لئے کچھ تامل کرنا پڑتا ہے۔ گو وہ تامل استدلال کے درجہ کا نہیں ہوتا مگر استدلال کے مشابہ ضرور ہوتا ہے۔

اور کشف میں تامل کی بھی حاجت نہیں ہوتی، خود بخود بدلتا رہتا اس کی صحت اور عدم صحت کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

### عقل و کشف کا فرق:

عقل کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک کشف کی مگر اتنا فرق ہے کہ کشف کی مثال ٹیلیفون کی سی ہے کہ وہاں صریح الفاظ سنائی دیتے ہیں اور عقل کی مثالی ٹیلیگراف کی سی ہے کہ اس میں کچھ تعالٰیٰ کرنا پڑتا ہے۔

### خواب و الہام کا فرق:

فرمایا کہ خواب میں خیال کو زیادہ دخل ہوتا ہے اور الہام میں خیال کو زیادہ دخل نہیں ہوتا مگر اس کی صحت کے لئے صرف یہی کافی نہیں بلکہ اس کی صحت کے لئے علامت یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، نیز اس کی صحت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ صاحب الہام صاحب نور ہوتا ہے۔ اس کو الہام میں ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے جس کو وہی سمجھ سکتا۔ نیز الہام میں ایک طبعی بشاشت و فرحت اور انشراح معلوم ہوتا ہے۔

### شعبہ اور معجزہ کا فرق:

فرمایا شعبہ اور معجزہ میں فرق یہ ہے کہ شعبہ کسی سبب طبعی خفی کی طرف مستند ہوتا ہے کہ ہر شخص کی نظر اس سبب خفی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن ماہرین اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس شعبہ باز کی قطعاً کھول سکتا ہے اور معجزہ کسی سبب طبعی کی طرف مستند نہیں ہوتا وہ حارق العادۃ محض تحت قدرۃ اللہ داخل ہوتا ہے۔

۱۔ افاضات صفحہ ۲۰۸ ج ۱۰ و صفحہ ۲۰۷ ج ۱۰ حسن العزیز صفحہ ۱۹۵ ج ۲۔ ۲۔ افاضات صفحہ ۲۰۷ ج ۱۰۔ ۳۔

افاضات صفحہ ۲۶ ج ۱۰۔ ۴۔ دعوات عبدیت صفحہ ۱۱۲ ج ۵۔

## تعظیم اور عبادت کا فرق:

عبادت اور تعظیم میں نیت اور اعتقاد کو دخل ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی فعل کبھی عبادت اور کبھی تعظیم (ہو جائے) علی حسب الاعتقاد و لدیہ قرار پاسکتا ہے۔  
 تعظیم اور عبادت میں یہ فرق ہے کہ کسی بھی خواص الوہیت کا اعتقاد کر کے اس کی تعظیم کرنا، یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کوئی ایسا کام کرنا خاص حق الوہیت کا ہے۔ یہ عبادت ہے اور اگر یہ نہ ہو تو تعظیم ہے۔  
 اگر خاص الوہیت ثابت نہ کئے جائیں اور تعظیم کی جائے جیسے باپ یا استاد کی تعظیم بشرطیکہ اور خرابی نہ ہو تو جائز ہے۔

## موحد اور مشرک کا فرق:

ایک واسطہ بیت اللہ ہے و سائل نفع و ضرر کے اعتبار سے کسی درجہ میں مقصود نہیں ہیں اور یہی فرق ہے موحد اور مشرک میں کہ مشرک ان وسائل کو نفعاً و ضرراً مقصود سمجھتا ہے اور موحد غیر مقصود سمجھتا ہے۔ گو مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بتوں کو محض یکسوئی کے لئے سامنے رکھتے ہیں مگر ان کا برتاؤ ان کا مذب ہے وہ بتوں کے لئے نذر و نیاز کرتے تھے، ان کو متصرف و موثر سمجھتے تھے۔ یہاں ان سب باتوں کی مخالفت ہے۔

## تعصب اور تصلب کا فرق:

تعصب کے معنی ناحق کی حمات کرنے کے ہیں، باقی حق کی حمات اچھی بات ہے۔ اس کو تصلب فی الدین یعنی دین میں مضبوطی کہتے ہیں۔ مثلاً بے دینی کی وجہ سے لوگوں سے ترک اختلاط کرنا وغیرہ (کہ یہ تصلب فی الدین ہے نہ کہ تعصب لیکن ناحق کی طرف داری ناجائز ہے۔ ۳

علم غیب اور کشف کا فرق:

غیب کے دو معنی ہیں، حقیقی، اضافی، حقیقی وہ جس کے علم حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یہ خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور عبد کے لئے اس کا حصول محال شرعی و عقلی ہے، اضافی وہ جو کسی ذریعہ سے بعض کو معلوم کرادیا جائے اور بعض کو پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ عبد کے لئے بھی باعلام الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ پس غیب کے معنی اول اور کشف میں بتاؤں ہے اور معنی ثانی کے اعتبار سے دونوں میں بتاؤں نہیں۔

کچھ متوجہ ہونے سے کشف ہو جاتا ہے اور کبھی بلا متوجہ ہو جاتا ہے اور کبھی متوجہ ہونے سے بھی نہیں ہوتا غرض امر اختیار نہیں، البتہ گاہے قصد پر مرتب ہو جاتا ہے۔

کشف قبور میں بھی یہی تقریر جاری ہے۔

تکوین و شریعت اور علم موسوی و علم خضری کا فرق:

دونوں جدا جدا ہیں۔ علم خضری تکوین کے متعلق ہے جس کو طریقت و شریعت سے کچھ تعلق نہیں اور وہ علوم ولایت سے ادنیٰ درجہ کا شعبہ ہے اور علم موسوی تشریح کے متعلق ہے جن میں طریقت و شریعت سب کچھ آگئی اور اسی میں وہ علوم ہیں جو علوم ولایت کے اعلیٰ شعبوں میں سے ہے۔

شریعت و طریقت کا فرق:

شریعت نام ہے مجموعہ احکام تکلیفیہ کا اس میں اعمال ظاہری و باطنی سب آگئے اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس کا مرادف سمجھتے تھے۔ جیسے امام ابوحنیفہؒ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے۔ معرفۃ انفس مالھا و ما علیھا۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزو متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا اور دوسرے جزو متعلق باعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا۔ ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔

## تکبر و حیا کا فرق:

جملت (شرم و حیا) ایک طبعی انقباض ہے جو خلاف عادت کام کرنے یا حالت پیش آنے سے بڑا اختیار نفس پر وارد ہوتی ہے (جس میں) بعض اوقات کبر کا شبہ ہوتا ہے مگر واقع میں وہ کبر نہیں ہوتا اور معیار اس کا یہ ہے کہ یہ شخص جس طرح ایک ادنیٰ و خسیس کام کرنے سے شرماتا ہے اسی طرح اگر اس کے ساتھ غایت درجہ کی تعظیم و تکریم کا معاملہ کرے تب بھی ویسا ہی انقباض ہو۔ ۱

## جمال و زینت اور تکبر کا فرق:

جمال و زینت میں فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت تو اپنا دل خوش کرنے کے لئے اظہار نعمت الہیہ کے لئے ہوتا ہے اور دل میں اپنے کو نہ اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور جس میں دعویٰ استحقاق ہو اور دوسروں کی حقیر ہو، اور اپنے اوپر نظر اور دوسروں کی نظر میں علوشان کا قصد ہو وہ تکبر اور حرام ہے۔ ۲

## وقار اور تکبر کا فرق:

آج کل جو لوگ وقار و وقار پکارتے ہیں یہ وقار تکبر کا پونلہ ہے۔ ان لوگوں نے تکبر کا نام وقار رکھا ہے، یاد رکھو وقار کے خلاف کام وہ ہے جس میں دین پر بات آتی ہو اور جن میں دینی مصلحت پر کوئی اثر نہ پہنچے، محض اپنی عرفی سبکی ہوتی ہو تو ایسا کام کرنا عین تواضع ہے آج کل جو لوگ وقار کا پونلہ بغل میں دبائے ہوئے ہیں وہ بیوی کے ساتھ دوڑنے کو خلاف وقار سمجھیں گے..... اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ یقیناً حضور کا فعل خلاف وقار تھا۔ ۳

## تاویل اور تحریف کا فرق:

جو صرف عن اللفظ ہر بضرورت صارف قطعی ہو، اور موافق قواعد عربیہ و شرعیہ ہو وہ تاویل ہے ورنہ تحریف ہے۔

## زینت اور تفاخر میں فرق:

زینت سے مقصود کبھی اپنا اچھا لگنا ہوتا ہے اور کبھی تادل یعنی یہ کہ دوسرے کے نزدیک حقیر نہ ہو اور یہ دونوں عرضیں حد جواز میں ہیں۔ اور کبھی مقصود دوسرے سے بڑا بننا اور امتیاز مقصود ہوتا ہے یہ تفاخر ہے اور ناجائز ہے۔ ۲

## تکبر اور شرم کا فرق:

بعض امور ناگوار طبیعت ہوتے ہیں اور ناگواری کی دو وجہ ہوتی ہیں، تکبر یا خلاف عادت ہونا۔ ماہ الامتیاز اور معیار تکبر اور خلاف عادت کا یہ ہے کہ اگر اس شخص کا خلاف عادت اعزاز بھی کیا جائے تب بھی شرمائے تو وہ ناگواری خلاف عادت ہونے کی وجہ سے اور اگر ایسا نہ ہو مثلاً ایک شخص ہے کہ بازار میں سر پر گٹھالے کر چلنے سے تو شرماتا ہے اور ہاتھی پر چڑھنے سے نہیں شرماتا گو خلاف عادت ہو تو یہ تکبر ہے اور اگر دونوں میں شرماتا ہے تو خلاف عادت سے رکنا ثجلت ہے تکبر نہیں۔ ۳

## اجازت و مشورہ کا فرق:

فرمایا اجازت اور چیز ہے اور مشورہ اور چیز ہے۔ آپ نے اجازت کو مشورہ سمجھا میں اجازت تو عام طور سے دیتا ہوں۔ ۴



اور مشورہ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ بات بتاؤں کہ جو صرف غیر مضر ہی نہیں مفید بھی ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ طیب سے اجازت چاہتے ہیں کہ گنا کھالیں اور اس کو اگر مضر نہیں دیکھتا تو کہہ دیتا ہے کہ کھالو، یہ اجازت ہے۔

اور مشورہ یہ ہے کہ طیب سے کہتے ہیں کہ آپ کے سپرد ہے جو مناسب ہو تدبیر بتلائیے۔ وہ اس وقت ایسی تدبیر نہیں بتلائے گا جو غیر مضر اور غیر مفید ہوں بلکہ وہ تدبیر بتلائے گا جو مفید ہوں وہ اس وقت آپ کا تمیح نہ ہوگا بلکہ اپنی رائے کا تمیح ہوگا۔ خواہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو۔

### سنگدلی اور یکسوئی کا فرق:

بعض بڑے محبوبین کا انتقال ہوا مگر بعد میں مجھے رنج نہیں ہوا۔ مجھے ایک دفعہ خیال ہوا کہ یہ سنگدلی ہے مگر غور کرنے سے سمجھ میں آیا کہ اگر اس کا منشا سنگدلی ہوتی تو بیمار کو دیکھ کر کیوں پکھلتا۔ معلوم ہوا کہ اس کا منشا صرف یہ کہ الیاس الخدی الرحمتین ہے۔

### گفتگو اور وعدہ کا فرق:

فرمایا اتنی بات دوبارہ گوش گزار کئے دیتا ہوں کہ گفتگو کو وعدہ نہ سمجھئے گا۔ (دونوں میں بڑا فرق ہے)۔ ۳۔

رسم و عادات کا فرق:

سوال:- عرب میں رسم ہے کہ چوکیوں پر کھانا رکھ کر کھلاتے ہیں اور یہاں اس کو بھی تہہ کہتے ہیں۔ فرمایا وہاں کی رسم تو عادت ہے اور یہاں جو کیا جاتا ہے میز کی نقل بنانے کے لئے اور چوکی میز کے مشابہ ہے۔ ۴۔

## اسلام و ایمان کا فرق:

نصوص سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اطلاق اعمال ظاہرہ پر کیا جاتا ہے اور ایمان عقائد کا نام ہے گو اطلاق میں دونوں متحد ہیں کیونکہ آج کل جو شخص اسلام کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے ہم اس کو مومن بھی کہیں گے کیونکہ نفاق کا علم ہم کو ہو نہیں سکتا، وحی بند ہو چکی ہے مگر حضور ﷺ کے زمانہ میں اسلام و ایمان میں اطلاقاً بھی فرق تھا پس آج کل دونوں کا اتحاد ایک عارض کی وجہ سے ہے کہ ہم کو نفاق کا علم نہیں ہو سکتا ورنہ اصل میں فرق ضرور ہے۔

## تملیک و اباحت کا فرق:

فقہاء نے صاف لکھا ہے کہ اباحت میں کھانا مالک کی ملک میں رہتا ہے۔ اگر مالک لقمہ اگلوانا چاہے تو اس کو اس کا بھی حق ہے۔ البتہ تملیک کی صورت میں وہ کھانا لینے والے کی ملک ہو جاتا ہے جیسے تقریبات کے اندر کھانا گھروں میں بھیجا جاتا ہے وہ ملک ہے باقی مہمان کے سامنے جو کھانا آتا ہے وہ اس کی ملک نہیں ہوتا وہ محض اباحت ہے کہ جتنا کھا سکو کھا لو باقی مالک کو واپس کر دو۔

## دین و دنیا کا فرق اور اس کا معیار:

اس کا معیار یہ ہے کہ جس کام کا شریعت میں تاکید یعنی وجودی یا ترغیبی یعنی استجابی حکم کیا گیا ہو یا اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو دین کا کام ہے۔ پھر اگر اس کے ترک پر وعید کیا ناراضی بھی وارد ہو تو وہ فرض یا واجب ہے اور جس کے ترک پر وعید یا ناراضی نہ ہو وہ مستحب اور جس میں یہ بات نہ ہو وہ دنیا کا کام ہے گو اس کے متعلق جو احکام وارد ہوں وہ احکام ہر حال میں دین ہی ہیں۔

## وسوسہ اور طمع و اشراف کا فرق:

وسوسہ اور اشراف میں فرق یہ ہے کہ اگر خیال ہوا کہ شاید کچھ ملے اور نہ ملنے سے اذیت نہ ہوئی تو صرف وسوسہ تھا اور اگر ایذا اور رنج ہوا تو قلب میں شکایت اور ناگواری ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا تو طمع اور اشراف تھا۔

## تجربہ اور عقل کا فرق:

تجربہ عقل سے جدا چیز ہے۔ اگر تجربہ کاری کا نام عقل ہے تو ایک ایل ایل بی پاس شدہ کو کپڑا بننا بھی آنا چاہئے حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ ایک معمولی سے معمولی بے وقوف بھی کپڑا بننے میں ایل ایل بی سے بڑھا ہوا ہے تو بے وقوف کو زیادہ عقلمند کہنا چاہئے، حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ تجربہ رکھتا ہے اور یہ تجربہ نہیں رکھتا۔ پس ثابت ہوا کہ عقل اور چیز ہے اور تجربہ اور چیز ہے۔

## حسن و جمال کا فرق:

حسن اور چیز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت میں وارد ہے اور جمال جس میں حضور اقدس ﷺ سب سے پہلے افضل ہیں اور چیز ہے اور حسن سے جمال بڑھا ہوا ہے۔ حسن کو دیکھ کر تو ایک گونہ خیر ہوتا ہے اور جمال کو دیکھ کر کشش ہوتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور ﷺ کو اجمل کہا جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن کہا جائے تو نہ کسی نص کی مزاحمت ہے اور نہ کسی کی تنقیص ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے فائق تھے اور جمال میں حضور ﷺ تو کیا حرج ہے۔

## حدود و قیود کی تعریف اور فرق:

میرے نزدیک حدود و قیود میں فرق ہے جو غالباً لغت کے موافق ہے۔ حدود وہ ہے جو کسی شے کا ملحقہا ہو اور قیود وہ ہے جو اس حد کے اندر اس شے میں تخصیص کر دے۔ مثلاً نماز کی ایک توحد ہے کہ عصر کی نماز میں چار رکعات ہیں اس سے زیادہ کرنا منع ہے اور قیود یہ ہیں جیسے نماز کے لئے با وضو ہونا مستقبل قبلہ ہونا وغیرہ حد بھی اطلاق کے منافی ہے اور قید بھی۔ ۱

ت م ت

جمادی الاوٰلیٰ ۱۴۱۰ھ



## زم زم پبلشرز کی مطبوعات ایک نظر میں

- |      |  |   |
|------|--|---|
| (۱)  | حرام و حرام کے احکام المعروف بطرح صابہ | (بحر العلوم حضرت مولانا فتح محمد صاحب لکھنؤی)           |
| (۲)  | شرح نخبۃ الفکر (اردو)                  | (محمد عمرانور)  |
| (۳)  | فہرست کفایت المفتی جدید                | (مفتی عبدالقیوم راجکوٹی صاحب)                           |
| (۴)  | ارشاد اصول حدیث (کمپیوٹر)              | (مولانا مفتی محمد ارشاد القاسمی)                        |
| (۵)  | سونا چاندی اور ان کے زیورات کے احکام   | (ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب)                             |
| (۶)  | جواہر الفرائد: (شرح اردو شرح العقائد)  | (مولانا مفتی محمد یوسف صاحب)                            |
| (۷)  | نحو میر جدید                           | (حضرت مولانا مفتی محمد سعید ندوی صاحب)                  |
| (۸)  | الوردۃ المحاضرۃ                        | (محمد مفیض الرحمن بن احمد حسین الشاتقانی)               |
| (۹)  | آیات متعارضہ اور ان کا حل              | (حضرت مولانا انور گنگوہی صاحب)                          |
| (۱۰) | قرآنی افادات                           | (مولانا نثار احمد حقانی ندوی صاحب)                      |
| (۱۱) | ایمان الحجاج                           | (امیر الہند حضرت مولانا صاحبی الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ) |
| (۱۲) | حصول علم کے آداب                       | (حضرت مولانا ارشاد احمد فاروقی صاحب)                    |